



الجماعة الفاروقية
بیتنا
بیتنا

JULY 2010

عن مسقط رأسه 195

Regd. # SC-1177

مترجم

سیر استغفارات

مُسمَّوِيه

الِاسْتِغْفَارَاتُ الْمُنْقِذَةُ مِنَ النَّارِ

ماخوذ از

کتاب اربعية الحج المبركة

تالیف

عالم قطب الدین جنفی (السنی ۱۰۰۰ھ)

صحیح اعراب

شیخ الحدیث مفتی محمد احمد نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جمعیۃ ایشیاء اسلامیہ پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی ۷۴۰۰۰

Ph: 021-22420700 Website: www.ishaatislam.net

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سِتْرُ اسْتِغْفَارَاتٍ

مَسْمًى بِهِ

الإِسْتِغْفَارَاتُ الْمُنْقِذَةُ مِنَ النَّارِ

مَأخُودًا مِنْ

كِتَابِ ادْعِيَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

تَأَلَّفَ

عَلَامَةُ قُطْبِ الدِّينِ حَفْصِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ

تَصَدَّقَ بِأَعْرَابِ

شَيْخِ الْحَدِيثِ مِفْتَاحِ مُحَمَّدِ أَحْمَدِ نَعِيمِيِّ مَدْظَلِهِ

تُرْجِمَهُ بِأَعْرَابِ

أَبُو الْبَرَكَاتِ مُوَلَانَا مُحَمَّدُ فَضْلُ الْمُجِدِيِّ مَدْظَلِهِ

نَاشِرٌ

جَمْعِيَّةُ إِشَاعَةِ أَهْلِ السُّنَنِ (پَاكِسْتَان)

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھادور، کراچی، فون: 32439799

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نام کتاب	:	ستر استغفارات
تصنيف	:	علامہ قطب الدین حنفی علیہ الرحمہ
سن اشاعت بار اول	:	رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ / ستمبر ۲۰۰۹ء
تعداد اشاعت بار اول	:	۳۵۰۰
سن اشاعت بار دوم	:	رجب المرجب ۱۴۳۱ھ / جولائی ۲۰۱۰ء
تعداد اشاعت بار دوم	:	۳۵۰۰
ناشر	:	جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)
نور مسجد کاغذی بازار میٹھادور، کراچی، فون: 32439799		
خوشخبری: یہ رسالہ website: www.ishaateislam.net پر موجود ہے۔		

پیش لفظ

انسان خطا کار ہے اس لئے ہر لمحہ اپنے رب کی بخشش کا محتاج ہے، اور طلب بخشش اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انسان کو اپنے رب کی بخشش کی طرف بلایا گیا اور نبی ﷺ نے اپنی امت کو طلب مغفرت کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے فضائل و فوائد ان کے سامنے بیان فرمائے اور استغفار کے صیغے قرآن و حدیث میں مذکور اور اسلاف سے منقول ہیں۔

زیر نظر استغفارات کے صیغے امام حسن بصری کی طرف منسوب ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، علامہ قطب الدین حنفی نے اس کا تذکرہ اپنی تالیف ”ادعیۃ الحج و العمرة“ میں کیا ہے۔ ہمارے احباب خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد عرفان ضیائی، مولانا مختار اشرفی اور مولانا طالب قادری دامت برکاتہم کی خواہش تھی کہ انہیں آسان فہم ترجمہ کے ساتھ عوام المسلمین کے لئے طبع کرایا جائے کچھ کام باقی تھا اس لئے ۲۰۰۹ء میں انہیں بغیر ترجمہ کے شائع کیا گیا اب الحمد للہ حضرت علامہ مولانا محمد افضل امجدی مدظلہ کے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا رہا ہے۔ جس کی تصحیح کا کام ہمارے ادارے کے استاذ حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب نے انجام دیا۔

زیر نظر استغفارات کا احوال اور امام حسن بصری اور علامہ قطب الدین حنفی کے مختصر حالات ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث اور دارالافتاء کے سربراہ مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی مدظلہ کی تحریر سے شامل کئے گئے ہیں، اور اسے سلسلہ اشاعت نمبر 195 پر شائع کیا جا رہا ہے اور یہ مقبول و مجرب و نافع بنام ستر استغفارات ان شاء اللہ تعالیٰ کتب خانوں پر بھی دستیاب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنیٰ کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسے ہمارے اور ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین

محمد عرفان المانی

الْإِسْتِغْفَارَاتُ الْمُنْقِذَةُ مِنَ النَّارِ

علامہ قطب الدین حنفی علیہ الرحمہ نے استغفار کے ان صیغوں کو اپنے رسالہ ”أدعية الحج والعمرة“ میں فصل فی دخول مكة کے بعد والی فصل میں نقل کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ جب ساتویں ذوالحجہ کی رات ہو تو ”الْإِسْتِغْفَارَاتُ الْمُنْقِذَةُ مِنَ النَّارِ“ کا ورد کرے جو حضرت امام حسن بصری کی طرف منسوب ہیں اللہ تعالیٰ کے خالص اولیاء اور اس کے صالحین بندوں میں سے وہ شخص ان استغفارات پر ہمیشگی کرے گا اللہ تعالیٰ کی سعادت جس سے موافقت کرے گی اور میرے والد شیخ علاؤ الدین (احمد رحمۃ اللہ علیہ) ان کے ورد پر ہمیشگی فرمایا کرتے تھے اور میں ان استغفارات کو ان سے وہ اپنے استاد حافظ الذہبی سے الملتہ والدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ سے وہ شیخ زاہد صوفی ابو العباس احمد بن محمد عقبی سے اور خیرۃ الصالح بقیۃ السلف أم محمد زینب بنت عبد اللہ عربانی سے، پہلے (یعنی ابو العباس) نے کہا خبردی مجھے شیخ صالح أم عیسیٰ مریم بنت احمد بن محمد ابراہیم أذری حنفی نے، دوسری (یعنی أم محمد) نے کہا کہ خبردی ہمیں شہاب احمد بن نجم ایوب بن ابراہیم قرانی نے جو ابن المنفر (کے نام سے) مشہور ہیں اور صالح تھے، دونوں ابو الحسن علی بن ابی بکر الوانی الصوفی سے، دوسرے نے سماعت کی اور تصریح کرتے ہوئے کہا خبردی ہمیں ابو القاسم عبد الرحمن بن مکی الطرابلسی الصوفی نے، دونوں نے کہا خبردی ہمیں ابو الطاہر احمد بن محمد السلفی الصوفی نے، وہ کہتے ہیں خبردی ہمیں ابو عبد اللہ احمد بن علی الأسوانی الصوفی نے اصہبان میں، وہ کہتے ہیں خبردی ہمیں ابو الحسن علی بن شجاع بن محمد الشیبانی المصقلی نے مذکر میں، وہ کہتے ہیں خبردی ہمیں ابو علی احمد بن عثمان الزیدی الصوفی نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی وہ حضرت سری سقطی سے، وہ حضرت معروف کرخی سے وہ فرماتے ہیں خبردی ہمیں سعید بن عبد العزیز العابد نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا میں تمنا کیا کرتا تھا میں بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے

ولیوں یا دوستوں میں سے کسی کو دیکھوں تو اُن سے بیداری یا خواب میں اپنی حاجت کا سوال کروں یہاں تک کہ ایک سال میں زوال کے وقت عرفات میں کھڑا تھا، اچانک (میں نے) اس پہلو کے درخت کے پاس جو وادی نعمان کے برابر ہے جبل وادی الصخرات کی طرف سے آٹھ حضرات کو دیکھا پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بزرگ ہیں تو میں نے اُن کا قصد کیا اور ان حضرات کو سلام کیا تو انہوں نے اچھے انداز میں میرے سلام کا جواب دیا، دیکھتا ہوں کہ اُن میں سے ایک شیخ کبیر (بڑے بزرگ ہیں) کہ جن کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا متور کیا ہے کہ اُن کا نور آسمان کے کناروں تک بلند ہو رہا ہے تو میں اُن حضرات کے ساتھ بیٹھ گیا چونکہ میں نے ان میں وقار اور سکینہ کا مشاہدہ کیا تھا اس لئے اُن کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اُن میں سے ایک نے کھڑے ہو کر اذان و اقامت کہی اور شیخ آگے بڑھے اور انہیں نماز پڑھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی، اور میں جانتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں اس کی مثل نماز نہ لکھی گئی اور نہ لکھی جائے گی پھر نماز کے بعد وہ قبلہ رُو ہوئے اور الحمد للہ حمداً کثیراً کہا میں نے اس کے سوا کچھ نہ سنا، اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے غائب نہ ہو جائیں تو وہ بزرگ جو مجھ سے قریب تر تھے اُن سے عرض کی کہ آپ کو اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو چنایا برگزیدہ بنایا آپ نے یہ درجہ اور فضیلت کیسے پائی؟ اس پر اُن کا چہرہ متغیر ہو گیا اور مجھے گھور کر دیکھا تو اُن سے (بڑے) شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرماتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، آپ ان کی رہنمائی کریں اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس پر (اُس نے) فرمایا (جس سے میں نے سوال کیا تھا) کہ میں تین راتوں میں ”الْبِاسْتِغْفَارَاتُ الْمُنْقِذَةُ مِنَ النَّارِ“ آتش جہنم سے بچانے والی استغفارات پڑھتا تھا تو میں نے عرض کیا وہ استغفارات کیا ہیں؟ اور وہ تین راتیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا ساتویں ذالحجہ کی رات، نویں ذالحجہ اور دسویں ذالحجہ کی رات، اور اگر ان استغفارات کو پڑھنے والا جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کس چیز سے تعلق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہوگا کہ وہ اس شخص کو بڑی گھبراہٹ والے دن (یعنی قیامت کے

دن امن عطا فرمائے اور اُسے اپنی رحمت و ولایت سے خاص فرمائے، تو میں نے عرض کیا وہ استغفار مجھے سکھائیے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تو انھوں نے فرمایا کہ وہ استغفارات یہ ہیں۔ (أدعية الحج والعمرة للقطب الحنفی مع إرشاد الساری إلی مناسک الملا علی القاری، فصل بعد فصل فی دخول مكة، ص ۶۱۱، ۶۱۲ مطبوعة: دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ، ۱۹۹۸م، وص ۵۵ مطبوعة: إدارة القرآن العلوم الإسلامیة، کراتشی)

علامہ قطب الدین حنفی

علامہ قطب الدین محمد بن علاء الدین احمد بن قاضی خان محمود النہروالی الہندی ثم الہکی لکھنؤی کے والد ہندوستان کے علاقے نہروالہ کے تھے اس وجہ سے آپ کو نہروالی کہا جاتا ہے جبکہ کشف الظنون، ایضاً المکتون، ہدیۃ العارفين کے مؤسسۃ التاریخ العربی کے مطبوعہ نسخے میں اور عمر رضا کمالہ کی کتاب ”معجم المؤلفین“ میں نہروالی مذکور ہے جو کہ درست نہیں کیونکہ خیر الدین زرکلی نے ”الأعلام“ میں اور ڈاکٹر زبیر احمد نے اپنی تالیف ”عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ“ میں اور ”موسوعة العربية العالمیة“ کے مؤلفین نے اپنے ”موسوعة“ میں اور ڈاکٹر حسام الدین بن محمد صالح فرفور نے اپنی تحقیق میں نہروالی لکھا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے آپ کو نہروالی لکھا ان میں سے بعض نے ساتھ ہی ہندی بھی لکھا ہے جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ علاقہ جس کی طرف علامہ قطب الدین حنفی کی نسبت ہے وہ ہندوستان میں ہی ہے اور ہندوستان میں نہروان نام کا کوئی علاقہ میرے علم میں نہیں ہے جب کہ ”نہروالہ“ ہندوستان کا مشہور علاقہ ہے لہذا ”نہروالی“ ہی درست ہے نہ کہ ”نہروانی“۔ اسی طرح مترجمین میں سے بعض نے آپ کے دادا کا نام ذکر نہیں کیا اور بعض نے ذکر کیا ہے تو ان میں سے کچھ نے تو دادا کا نام محمد لکھا جیسا کہ ڈاکٹر حسام الدین فرفور نے ”بدر الطالع“ اور ”الأعلام“ کے حوالے سے اور کچھ نے قاضی خان محمود خان لکھا جیسا کہ ڈاکٹر زبیر احمد نے ”عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ“ میں۔

آپ کے والد اپنے وطن ”نہروالہ“ (ہند) سے ہجرت کر کے حجاز مقدس تشریف لے گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور یہیں علامہ قطب الدین پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کی کہلائے اور مترجمین کے آپ کو الھندی ثم الہکی لکھنے کا یہی مطلب ہے اور مؤرخ اسماعیل پاشا نے ”ایضاح المکتون“ (۹/۳) میں آپ کو القادری الخرقانی بھی لکھا ہے، قادری و خرقانی سے ظاہر مراد سلسلہ طریقت ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو النہروانی الہکی پہلے لکھا جو دونوں آپ کے اصل وطن اور وطن پیدائش کی خبر دیتے ہیں اس کے بعد القادری، الخرقانی، الہکی لکھا ان میں سے پہلے دو یعنی قادری و خرقانی سلسلہ طریقت اور آخری لفظ یعنی حنفی آپ کے مذہب کی خبر دیتے ہیں، آپ ۹۱۷ھ بمطابق ۱۵۱۱ء میں پیدا ہوئے جیسا کہ ”معجم المؤلفین“ ”عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ“ اور ”الموسوعة العربیہ العالمیہ“ میں بغیر کسی اختلاف کے یہی سال مذکور ہے جبکہ خیر الدین زرکلی اور دیگر نے پیدائش کا سال ذکر نہیں کیا۔

علامہ قطب الدین حنفی مکہ معظمہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ۹۴۳ھ میں بغرض تعلیم قاہرہ مصر گئے جہاں انہوں نے سربراہ آوردہ علماء سے تحصیل علم کیا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہوئے کچھ عرصہ بعد وہ مکہ کے دینی مدرسہ میں درس دینے لگے اور آپ مسجد الحرام میں بھی فقہ و تفسیر کا درس دیتے رہے پھر مکہ مکرمہ کے مفتی مقرر ہوئے۔

علامہ قطب الدین حنفی کی وفات میں اختلاف ہے اسی وجہ سے ”الموسوعة العربیہ العالمیہ“ کے مؤلفین نے آپ کی وفات کا سال ذکر نہیں کیا اور خیر الدین زرکلی ”الأعلام“ میں اور ڈاکٹر حسام الدین بن محمد صالح فرفور نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ آپ ۹۸۸ھ میں فوت ہوئے جبکہ عمر رضا کمالہ نے ”معجم المؤلفین“ میں آپ کی وفات ۹۹۰ھ بمطابق ۱۵۸۳ء اور ڈاکٹر زبیر احمد نے ”عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ“ میں سال وفات ۹۹۰ھ بمطابق ۱۵۸۲ء میں لکھا ہے۔ اور ”کشف الظنون“ میں مصنف کی تصنیف ”کنز الأسماء“ (۱۵۱۳/۲) ”البرق الیمانی“ (۲۳۹/۱) اور

”الاعلام“ (۱۲۶/۱) کے تحت سال وقات ۹۸۸ھ اور ”طبقات الحنفیة“ (۱۰۹۸/۲) کے تحت ۹۹۰ھ اور ”مناسک قطب الدین“ (۱۸۳۲/۲) کے تحت ۹۹۱ھ درج ہے۔ آپ مؤرخ، مفکر، عالم بالعربیہ اور شاعر تھے اور آپ کے تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ الاعلام بالاعلام بیت اللہ الحرام

علامہ قطب الدین کی یہ تصنیف مکہ معظمہ کی مکمل تاریخ ہے جو ایک مقدمہ دس، ابواب اور ایک ضمیمہ پر مشتمل ہے مقدمہ میں مصنف نے اپنے کتاب کے مآخذ کی فہرست بھی درج کی ہے اور لکھا ہے مکہ مکرمہ کے قدیم ترین مؤرخ علامہ ابوالولید محمد بن عبدالکریم الازرقی ہیں۔ مندرجہ ذیل فہرست ابواب سے اس کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

باب اول۔ مکہ اور کعبہ کا جغرافیائی بیان

باب دوم۔ کعبہ کی بنا اور تعمیر

باب سوم۔ عہد جاہلیت اور اسلام میں مسجد الحرام کی کیفیت

باب چہارم۔ عباسیوں کے عہد میں مسجد الحرام میں کیا اضافہ کیا گیا؟

باب پنجم۔ منصور کے عہد سے شروع ہو کر اس کے بیٹے مہدی کے عہد میں مکمل ہونے

والی تعمیر کے بعد آئندہ عباسیوں کے عہد میں ہونے والے دو اہم اضافوں کا خصوصی بیان

باب ششم۔ جراکہ کے عہد میں مسجد کی مرمت

باب ہفتم۔ مسجد الحرام عہد عثمانیہ میں

باب ہشتم۔ مسجد الحرام سلیم اول کے عہد حکومت میں

باب نہم۔ مسجد الحرام سلیم دوم کے عہد حکومت میں

باب دہم۔ مسجد الحرام سلطان مراد کے عہد میں

ضمیمہ۔ مکہ میں مقدس مقامات کا بیان

کعبہ کی تاریخ کو پوری طرح واضح کرنے کیلئے مصنف نے عہد رسالت سے لیکر خود اپنے زمانے تک مسلمانوں کی پوری تاریخ کا ایک سرسری خاکہ بھی پیش کیا ہے مغربی علماء

نے اس کتاب کی اہمیت کو بخوبی محسوس کیا اور اس نوعیت کی دوسری کتابوں کے ساتھ اس کو بھی دو شٹن فلڈ نے مرتب کیا۔

اور ڈاکٹر زبید احمد نے لکھا کہ اس کتاب کے مخطوطات، برلن، ۶۰-۶۵-۶۰۔
گوتھ، ۹-۱۷۰۸-۱۷۰۸۔ پیرس، ۲۲-۱۰۳۷-۱۰۳۷۔ برٹش میوزیم، ۷-۳۲۶-۳۲۶۔ بانگی پورہ، ۱۰۸۸-۱۰۸۸ میں ہیں اور دوسرے مخطوطات کے لئے بروکلمن، ۲/۳۸۲ ملاحظہ ہو۔

۲۔ تاریخ المدینة:

اس کتاب کا ذکر زیر نظر کتب تراجم میں نظر نہیں آیا اور یہ کتاب تقریباً ۱۴۱۶ھ بمطابق ۱۹۹۵ء میں مکتبہ الثقافیہ الدینیہ نے شائع کی اور یہ عظیم القدر کتاب جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان) کے کتب خانہ میں موجود ہے اور اسے میں نے چند سال قبل مدینہ طیبہ کے ایک کتب خانہ سے حاصل کیا تھا، محقق نے ذکر کیا کہ اس کا مخطوط معھد المخطوطات العربیہ، قاہرہ (تحت رقم: ۹۶۵) میں موجود ہے جس کے ۱۳۳ اوراق ہیں اور یہ کتاب نو فصلوں پر مشتمل ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی فصل: مدینہ منورہ کے پہلے رہائشی کے بیان میں

دوسری فصل: مدینہ منورہ کی فتح اور اس کی طرف نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کی ہجرت

کے بیان میں

تیسری فصل: حرمت مدینہ کا بیان

چوتھی فصل: وادیوں کا بیان

پانچویں فصل: بنو نضیر کی جلا وطنی کے بیان میں

چھٹی فصل: مسجد رسول ﷺ کی تعمیر کی ابتداء کا ذکر

ساتویں فصل: ان مساجد کا ذکر جن میں نبی ﷺ نے نماز ادا فرمائی

آٹھویں فصل: رسول اللہ ﷺ کے وصال باکمال کا ذکر

نویں فصل: نبی ﷺ کی زیارت کے حکم اور اس کی فضیلت کے بیان میں

Click

علامہ قطب الدین کی تحریر کے بارے میں ڈاکٹر زبیر احمد نے لکھا ہے کہ سر ڈینی سن نے ایک جگہ مصنف کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے اگرچہ وہ اصلاً ہندی، ایرانی تھے اور ان کے اجداد تیرہویں صدی (عیسوی) میں تاتاری حملہ کے زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے تھے مگر ان کی مادری زبان عربی تھی ہندوستان آنے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے فارسی سیکھی تھی، ان حالات کی وجہ سے علامہ قطب الدین حنفی کی تصنیف میں دو خصوصیات نمایاں ہیں ایک تو اس کی زبان کا اسلوب جس سے بعض جگہ بے احتیاطی کے باوجود صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے شخص کی عربی ہے اور دوسرے ہندی اور فارسی ناموں کا صحیح تلفظ، کیونکہ بدیسی ہونے کی وجہ سے مصنف نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے کہ سب نام بالکل صحیح اور واضح طور پر لکھے جائیں۔ (عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ ص ۱۸۰ بھڑف سیر)

علامہ قطب الدین حنفی کی کتب کو ہمیشہ علماء کرام نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کی تحریر کو مستند گردانتے ہوئے ان سے نقل کیا ہے جیسا کہ علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی حنفی (متوفی ۱۱۷۳ھ) کی کئی تصانیف خصوصاً ”حیاء القلوب فی زیارة المحبوب“ میں دیکھا گیا ہے اسی طرح علامہ اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی الحنفی (متوفی ۱۰۶۲ھ) نے ”الإحکام شرح در الاحکام فی شرح غرر الاحکام“ (کتاب الصلاة، باب الجمعة، ۱/ق ۴۷۵ ب) میں، علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ”الدر المختار“ پر اپنے حاشیہ (کتاب الصلاة، باب الجمعة) میں، اسی طرح دیگر علماء اسلام نے بھی اور مغرب میں بھی علامہ قطب الدین حنفی کی تصانیف کی بہت قدر کی گئی ہے۔

۳۔ البرق الیمانی فی الفتح العثماني:

یہ کتاب دسویں صدی ہجری کے آغاز سے ۹۷۸ھ تک یمن میں ہونے والے واقعات کی تاریخ ہے جو تین ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے یہاں ۱۳ فصلوں میں منقسم

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے جس میں دسویں صدی ہجری کے آغاز سے لے کر عثمانی ترکوں کی فتح یمن تک یعنی بادشاہوں کی تاریخ قلم بند کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں ۷۳ فصلیں ہیں۔ اس میں یمن پر ترکوں کے قبضے سے لے کر سلطان سلیمان کے عہد حکومت تک کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تیسرے باب میں ۱۰ فصلیں ہیں اور اس میں سلطان سلیم کے عہد حکومت میں پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خاتمہ ۴ فصلوں پر مشتمل ہے جس میں سان پاشا کی مصر کو واپسی اور اس کے فتوحات تیونس و گولیتا کا حال بیان کیا گیا ہے۔ حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں لکھا ہے کہ مصنف نے یہ کتاب وزیر سان پاشا کے لئے لکھی۔

۴۔ الفوائد السنیة فی الرحلة المدینة والرومیة:

اس کتاب کا ذکر ”الموسوعة العربية العالمية“ میں ہے اور وہاں مذکور ہے کہ یہ کتاب جغرافیہ میں ہے جیسا کہ نام سے بھی یہی ظاہر ہے۔

۵۔ ابتهاج الإنسان و الزّمن فی الاحسان الواصل

للحرمین من الیمن، بمولنا الوزير العدل الباشا حسن اسماعیل باشا بغدادی نے ”ایضاح المکنون“ میں اسے علامہ قطب الدین حنفی کی تصنیف بتایا ہے اور لکھا ہے کہ مصنف ربیع الأول ۱۰۰۵ھ میں اس تالیف سے فارغ ہوئے اور یہ ۱۰۰۵ھ میں اس تصنیف سے فراغت والی بات محل نظر ہے۔

۶۔ التمثیل المحاضرة فی الأبیات المفردة النادرة:

اس تصنیف کا ذکر ڈاکٹر زبید احمد نے اپنی کتاب ”عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ“ کے دوسرے باب کی نویں فصل علم البیان میں کیا ہے جبکہ اسی کتاب کے حاشیہ میں ہے کہ بروکلین نے اس کتاب کا نام ”تمثال الأمثال الثائرة فی الأبیات الفریاة النادرة“ بھی لکھا ہے بحوالہ بروکلین ۳۸۲/۲

۷۔ الكنز الأسماء في فن المعنى:

اس تصنیف کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں اور ڈاکٹر زبیر احمد نے اپنی کتاب ”عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ“ دوسرے باب کی نوں فصل علم اللسان (ص ۳۹۹) میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں لکھا ہے کہ علامہ عبدالمعین بن احمد الشہیر باین البرکات الخلیفی نے ایک چھوٹی کتاب تحریر کی اور اس کا نام ”الطراز الاسماء علی کنز المعما“ رکھا تو گویا یہ علامہ قطب الدین کی کتاب کی شرح کی مثل ہو گئی۔

۸۔ منتخب التاریخ فی التراجم:

بعض نے اس کتاب کو ”طبقات حنفیہ“ کہا ہے جیسا کہ حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں اور عمر رضا کحالیہ نے ”معجم المؤلفین“ میں اس کا نام ”طبقات الحنفیہ“ لکھا ہے وہ شاید اس لئے کہ مصنف نے ”منتخب التواریخ فی التراجم“ میں صرف احناف کے تراجم لکھے ہوں گے۔ حاجی خلیفہ نے ذکر کیا کہ مصنف نے احناف کے تراجم چار جلدوں میں جمع کئے پھر وہ ان کی کچھ دیگر کتب کے ساتھ جل گئے پھر انہوں نے اسے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔

۹۔ مناسک قطب الدین:

حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں اور عمر رضا کحالیہ نے ”معجم المؤلفین“ میں مصنف کی تصانیف میں ”مناسک“ کا ذکر کیا ہے اور مصنف نے خود اپنی تالیف ”کتاب أدعیة الحج والعمرة“ کی ابتدا میں اپنی اس کتاب کی تالیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے مناسک پر اپنی تصنیف کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے مناسک میں ایک مفصل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اور حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں لکھا ہے یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے جو ایسے تمام ضروری مسائل پر مشتمل ہے کہ جن کی

حاجیوں کو ضرورت پڑتی ہے۔

۱۰۔ کتاب أدعية الحج والعمرة :

مصنف نے مناسک پر کتاب لکھنے کے بعد اسے لکھا جیسا کہ خود لکھتے ہیں کہ مناسک پر تصنیف کے بعد مجھ سے بعض ایسے لوگوں نے خواہش کی کہ جن کی موافقت متعین ہے اور ان کی مخالفت کی کوئی راہ نہیں کہ میں حج و عمرہ کی دعاؤں پر مشتمل ایک رسالہ تحریر کروں تو میں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ان اوراق میں حج و عمرہ کے مقدمات میں ماثورہ دعاؤں اور آثار مشہورہ کو جمع کیا اور میں نے ان کو کتب مناسک وغیرہ سے لیا ہے اور ان پر مجرب و مقبول دعاؤں کا اضافہ بھی کیا ہے الخ

اور اس رسالہ کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں مصنف کی کتاب ”مناسک قطب الدین“ کے ساتھ کیا ہے اور لکھا کہ مصنف نے مناسک پر اپنی کتاب کو صرف ان ضروری مسائل کے ذکر تک محدود رکھنے کے لئے ”أدعية الحج والعمرة“ کو مناسک سے علیحدہ کر کے ایک مستقل رسالہ بنا دیا۔ اور یہ رسالہ ”لباب المناسک“ (للعلامة رحمت اللہ السندی) کی شرح المعروف بہ ”مناسک ملاء علی قاری“ پر علامہ حسین بن محمد کی حنفی کے حواشی بنام ”ارشاد الساری إلی مناسک الملاء علی القاری“ کے آخر میں ایک عرصہ سے طبع ہو رہا ہے، احقر نے منسراور اس کے بعد ادارۃ القرآن کراچی اور دارالکتب العلمیۃ بیروت سے طبع شدہ ”ارشاد الساری“ کے آخر میں مصنف کے اس رسالہ کو دیکھا اور اس سے استفادہ کیا ہے۔

اور یہ رسالہ ایک مقدمہ اکیس فصلوں اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے، مندرجہ ذیل فہرست

سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

مقدمہ۔ دعائے استخارہ کے بیان میں

فصل۔ وداع کے بیان میں

فصل۔ سوار ہونے کے ذکر میں

Click

- فصل - سواری سے اترنے کے ذکر میں
- فصل - ان تمام ماثورہ دعاؤں کے ذکر میں جو اوقاتِ خاصہ اور احوالِ معینہ سے متعلق ہیں جیسے خوف کے وقت کی دعا، کرب و غم کے وقت کی دعا۔
- فصل - ان جلیل المقدر دعاؤں کے ذکر میں کہ جن میں آثار وارد ہیں
- فصل - احرام کے بیان میں
- فصل - مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بیان میں
- فصل - اس میں ذالْحِجَّة کی ساتویں رات پڑھی جانے والی استغفارات کا ذکر ہے جو 'الْبِسْتِغْفَارَاتِ الْمُنْقِذَةِ مِنَ النَّارِ' کے نام سے معروف ہیں اور امام حسن بصری علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہیں۔
- فصل - اس فصل میں مکہ سے منیٰ روانگی کا ذکر ہے
- فصل - عرفات کی طرف روانگی کا ذکر
- فصل - اس فصل میں مسجدِ ابراہیم علیہ السلام یعنی مسجدِ نمرہ میں نماز اور خطبہ کا ذکر ہے
- فصل - عرفات میں نبی ﷺ کی جائے وقوف کا بیان
- فصل - عرفات میں دعاؤں کے بیان میں
- فصل - اس میں جمعہ کے روز حج کی فضیلت کا بیان ہے
- فصل - اس میں عرفات سے مزدلفہ میں روانگی کا ذکر ہے
- فصل - اس میں مزدلفہ میں داخل ہونے کا ذکر ہے
- فصل - اس میں مزدلفہ سے منیٰ واپسی کا ذکر ہے
- فصل - اس میں منیٰ پہنچنے کا ذکر ہے
- فصل - طوافِ زیارت اور اس کے بعد کی دعاؤں کا ذکر
- فصل - منیٰ سے مکہ مکرمہ لوٹنے کا بیان
- فصل - طوافِ صدر کا بیان

خاتمہ۔۔ صلاۃ التبیح کا بیان

اور ”الاسْتِغْفَارَاتُ الْمُنْقِذَةُ مِنَ النَّارِ“ (آتشِ جہنم سے بچانے والے استغفارات) کے نام سے استغفار کے یہ صیغے بھی مصنف علیہ الرحمہ کے اس رسالہ سے لئے گئے ہیں۔

دیکھئے:

- ۱۔ کشف الظنون، للمؤرخ مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفه، ۱۲۶/۱، ۲۳۹/۱، ۲۴۰/۲، ۱۰۹۸/۲، ۱۵۱۳/۲، ۱۸۳۲/۲، مؤسسة التاريخ العربي
- ۲۔ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، للمؤرخ إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، ۹/۳، مؤسسة التاريخ العربي
- ۳۔ هدية العارفين اسماء المؤلفين و آثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي، ۲۶۲/۶، مؤسسة التاريخ العربي
- ۴۔ معجم المصنفين لعمر رضا كحاله ۱۷/۹، دار احياء التراث العربي
- ۵۔ البدر الطالع للشوكاني، ۵۷/۲، دار المعرفة، بيروت
- ۶۔ الأعلام للزركلي ۲۰۰/۵، دار العلم للملايين ۲۰۰۵م
- ۷۔ الموسوعة العربية العالمية، ۵۴۶/۲۵، مؤسسة أعمال الموسوعة، بيروت للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ۱۹۹۹ء، ۱۹۹۹ء
- ۸۔ التحقيق و التعليق، للدكتور حسام الدين علي حاشيه ابن عابدين، ۸۸/۵، دار الثقافة و التراث، دمشق
- ۹۔ عربى ادبيات ميں پاڪ و هند كا حصه، مصنفه ڈاكٽر زبيد احمد، مترجم شاہد حسن رزاقی باب اول، فصل نہم ص ۷۷ تا ۱۸۰، باب دوم فصل ہشتہ تاریخ سوانح اور جغرافیہ ص ۳۸۹، ۳۹۰، باب دوم فصل نہم علم اللسان، ۳۹۸، ۳۹۹، مطبوعہ: إدارة ثقافت اسلامیہ، لاہور، طبع سوم ۱۹۹۱ء

امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اسم گرامی حسن بن ابوالحسن یسار بصری اور کنیت ابوسعید ہے۔ والدہ کا نام خیرہ تھا جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ باندی تھیں۔ ابن سعد نے لکھا کہ ”امام حسن بصری خلافت فاروقی کے آخری دو سالوں میں پیدا ہوئے اور وادی الثریٰ میں پروان چڑھے۔ آپ بڑے فصیح و بلیغ عابد و زاہد اور یکتائے روزگار خطیب تھے۔ سامعین ان کے وعظ سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت علی و ابن عمر و انس اور کثیر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین سے حدیثیں روایت کیں۔“

زہد و تقویٰ اور بہترین مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و حدیث کے جید فاضل اور احکام حلال و حرام میں اعلیٰ پایہ کی بصیرت رکھتے تھے۔ علمائے سلف کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:

- ۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”دینی مسائل امام حسن بصری سے پوچھا کیجئے انہیں وہ مسائل یاد ہیں اور ہم بھول گئے۔“
- ۲۔ سلیمان التیمی فرماتے ہیں: ”امام حسن بصری اہل بصرہ کے استاذ ہیں۔“
- ۳۔ قتادہ کا قول ہے: ”میں جس فقیہ کی صحبت میں بیٹھا امام حسن بصری کو اس سے بڑھ کر پایا۔“
- ۴۔ بکر المزنی فرماتے ہیں: ”جو شخص دورِ حاضر کے منفرد عالم کو دیکھنا چاہے وہ حسن بصری کو دیکھ لے۔ ہم نے ان سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا۔“
- ۵۔ ابو جعفر الباقر کے یہاں جب امام حسن بصری کا ذکر آتا تو فرماتے: ”ان کا کلام انبیاء کے کلام سے ملتا جلتا ہے۔“
- ۶۔ ابن سعد کہتے ہیں: ”امام حسن بصری عظیم عالم بلند پایہ فقیہ نہایت ثقہ بڑے عابد و زاہد درجہ فصیح و بلیغ اور حسین و جمیل تھے۔“

اصحاب صحاح ستہ نے حسن بھری سے روایت کی ہے۔ آپ نے ہجرت ۱۱۰ سال
۱۱۰ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب ۵۴۱ تا ۵۴۵، مطبوعہ: دارالمعرفة،
بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۶م)

فقط

احقر محمد عطاء اللہ نعیمی غفرلہ

خادم دار الحدیث و دارالافتاء جامعۃ النور،

جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)

پہلی منزل استغفار

بُرُزْ جَمْعُهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

①— اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ قَوِیْ عَلَیْهِ بَدَنِیْ
بِعَافِیَّتِکَ وَنَالَتُهُ قُدْرَتِیْ بِفَضْلِ نِعْمَتِکَ وَاثْبَسْتُ اِلَیْهِ
یَدِیْ بِسِعَةِ رِزْقِکَ وَاَحْتَجَبْتُ عَنِ النَّاسِ بِسِتْرِکَ وَاَتَكَلْتُ
فِیْهِ عِنْدَ خَوْفِیْ مِنْکَ عَلٰی اَمَانِکَ وَوَقَّتُ مِنْ سَطْوَتِکَ
عَلٰی فِیْهِ بِمِحْلَمِکَ وَعَوَّلْتُ فِیْهِ عَلٰی کَرَمِ وَجْهِکَ وَعَفْوِکَ
فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ
سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ۔

②— اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ یَدْعُو اِلَیَّ
غَضَبِکَ اَوْ یُدِنِیْ مِنْ سَخَطِکَ اَوْ یَمِیْلُ بِنِیِّ اِلَیَّ مَا نَهَيْتَنِیْ
عَنْهُ اَوْ یُبَاعِدُنِیْ عَمَّا دَعَوْتَنِیْ اِلَیْهِ۔

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

پہلی منزل

(۱) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس پر میرے بدن نے قدرت پائی تیری عافیت سے اور اس گناہ کو پایا میری طاقت نے تیری نعمت کی فراوانی سے اور اس گناہ کی طرف میرا ہاتھ پھیلا تیرے رزق کی وسعت سے اور میں لوگوں سے چھپا رہا تیری پردہ پوشی سے اور اس گناہ میں میں نے تیری امان پر بھروسہ کیا اپنے آپ پر تیرے خوف کے وقت اور میں نے اعتماد کیا تیری مجھ پر گرفت ہونے سے تیرے حلم پر اور میں نے تیری ذات مقدس کے کرم اور درگزر پر بھروسہ کیا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو تیرے غضب کی طرف بلائے یا تیری ناراضگی سے قریب کرے یا وہ مجھ کو اس بات کی طرف مائل کر دے جس سے تو منع فرمایا یا وہ اس سے دور کر دے جس کی طرف تو نے بلایا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ .
③ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اَسْلَمْتُ اِلَيْهِ
اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ بِغَوَايِيْتِيْ اَوْ خَدَعْتُهُ بِحِيلَتِيْ فَعَلِمْتُهُ
مِنْهُ مَا جَهِلَ وَ زَيَّنْتُ لَهُ مَا قَدْ عَلِمَ وَاَلْقَيْتُكَ غَدًا
بِاَوْ زَارِيْ وَاَوْ زَارٍ مَّعَ اَوْ زَارِيْ .

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ .
④ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُوْا اِلَى الْغَيِّ وَ
يُضِلُّ عَنِ الرُّشْدِ وَيُقِلُّ الْوَفْرَ وَيَمْحَقُ التَّالِدَةَ وَيُجْمِلُ
الذِّكْرَ وَيُقِلُّ الْعَدَدَ .

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ .
⑤ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اَتَّعَبْتُ فِيْهِ
جَوَارِحِيْ فِيْ لَيْلِيْ وَنَهَارِيْ وَقَدْ اسْتَرْتُ حَيَاءً مِّنْ عِبَادِكَ
بِسِتْرِكَ وَلَا سِتْرًا اِلَّا مَا سَتَرْتَنِيْ بِهِ .

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ .

اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے
سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۳) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کی طرف میں
نے اپنے نفس سرکش سے تیری مخلوق میں سے کسی کو لگایا یا اپنے حیلہ سازی سے کسی کو دھوکا دیا
تو میں نے اس کو وہ سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا اور جس کو وہ جانتا تھا اس کو آراستہ کیا، آہ! کل
میں اپنے گناہوں کے بوجھ اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔
تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ
معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۴) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو گمراہی کی طرف
بلائے اور راہِ راست سے بھٹکا دے اور وا فرھے کو کم کر دے اور ہمیشگی کی دولت کو کم کرے
اور ذکر خیر کو ختم کرے اور (دوست و احباب) کی تعداد کو کم کرے۔
تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ
معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس میں میں
نے اپنے جسم کے اعضاء کو تھکایا اپنی رات اور اپنے دن میں اور میں نے (اپنے سر کو) ڈھانپا
تیرے پردہ سے تیرے بندوں سے حیا کرتے ہوئے اور کوئی پردہ پوشی نہیں سوائے اس
کے کہ جس سے تو پردہ پوشی فرمائے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ
معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

⑥ ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَصَدَنِي بِهِ أَعْدَائِي
لِهَتِكِي فَصَرَفْتَ كَيْدَهُمْ عَنِّي وَلَمْ تَعْنَهُمْ عَلَيَّ فَضِيحَتِي
كَأَنِّي لَكَ مُطِيعٌ وَنَصْرَتِي حَتَّى كَأَنِّي لَكَ وَلِيٌّ، وَإِلَى
مَتَى يَا رَبِّ أَعْصِي فْتُمْهِلْنِي! وَطَالَمَا عَصَيْتُكَ فَلَمْ
تُؤَاخِذْنِي وَسَأَلْتُكَ عَلَى سُوءٍ فِعَلْتِي فَأَعْطَيْتَنِي فَآيُ
شُكْرِ يَقُومُ عِنْدَكَ بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑦ ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ
تَوْبَتِي مِنْهُ وَوَأَجْهْتُكَ بِقَسَمِي بِكَ وَآيَتِي بِنَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَشْهَدْتُ عَلَى نَفْسِي بِذَلِكَ أَوْلِيَاءَكَ
مِنْ عِبَادِكَ أَنِّي غَيْرُ عَائِدٍ إِلَى مَعْصِيَتِكَ فَلَمَّا قَصَدَنِي
إِلَيْهِ بِكَيْدِهِ الشَّيْطَانُ وَمَالَ بَنِي إِلَيْهِ الْخُدْلَانَ وَدَعَتْنِي
نَفْسِي إِلَى الْعِصْيَانِ اسْتَتَرْتُ حَيَاءً مِنْ عِبَادِكَ جَرَاءَةً مِنِّي
عَلَيْكَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْتَنِي مِنْكَ سِتْرٌ وَلَا بَابٌ وَلَا
يَحْجُبُ نَظْرَكَ حِجَابٌ فَخَالَفْتُكَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِلَى مَا نَهَيْتَنِي
عَنْهُ ثُمَّ مَا كَشَفْتَ السِّتْرَ وَسَاوَيْتَنِي بِأَوْلِيَاءِكَ كَأَنِّي

(۶) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جس کے ذریعے میرے دشمنوں نے میری بے عزتی کا ارادہ کیا پس تو نے ان کے فریب کو مجھ سے پھیر دیا اور میری رسوائی پر تو نے دشمنوں کی مدد نہ فرمائی گویا میں تیرا فرمانبردار ہوں اور تو نے میری مدد فرمائی گویا کہ میں تیرا دوست ہوں اور کب تک اے میرے پروردگار میں تیری نافرمانی کرتا رہوں گا اور تو مجھ کو مہلت دیتا رہے گا اور عرصہ دراز سے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو نے میرا مواخذہ نہ فرمایا اور اپنے برے کرتوتوں کے باوجود میں نے تجھ سے سوال کیا اس پر تو نے مجھ کو عطا فرمایا تو کون سا شکر ہے جو تیری مجھ پر نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بدلے بھی ہو سکے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جس سے میں نے تیری بارگاہ میں توبہ پیش کی اور تیری بارگاہ میں میں نے تیری قسم کھائی اور غیب کی خبریں دینے والے تیرے نبی حضرت محمد ﷺ کی قسم کھائی اور اس پر اپنے اوپر تیرے بندوں میں سے تیرے ولیوں کو گواہ بنایا۔ کہ میں پھر تیری نافرمانی کی طرف نہیں لوٹوں گا، پھر جب شیطان نے اپنے فریب سے اس کی طرف پھرنے کے لئے یہ ارادہ کیا اور مجھ کو بے مددی نے اُس کی طرف مائل کر دیا اور میرے نفس نے مجھ کو نافرمانی کی طرف بلایا تو تیرے بندوں سے حیا کرتے ہوئے (میں نے اُس گناہ کے کرنے میں) تجھ پر جرات کی اور اس بات کو میں خوب جانتا ہوں کہ مجھے تجھ سے کوئی پردہ اور دروازہ نہیں چھپا سکتا اور تیرے دیکھنے سے کوئی حجاب آڑ نہیں بن سکتا تو میں نے تیری مخالفت کی اس گناہ کے کرنے میں جس سے تو نے مجھ کو منع فرمایا پھر تو نے پردہ فاش نہ فرمایا اور مجھے اپنے ولیوں کے ساتھ اس طرح برابر فرمایا گویا کہ

لَا أَزَالُ لَكَ مُطِيعًا وَآلِي أَمْرِكَ مُسْرِعًا وَمِنْ وَعِيدِكَ فَارِعًا
فَلَيْسَتْ عَلَيَّ عِبَادِكَ وَلَا يَعْلَمُ سِرِّي تِي غَيْرُكَ فَلَمْ
تَسْمِنِي بِغَيْرِ سِمَتِهِمْ بَلْ أَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِثْلَ نِعْمَتِهِمْ ثُمَّ
فَضَّلْتَنِي بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ كَأَنِّي عِنْدَكَ فِي دَرَجَتِهِمْ
وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِجَلِيلِكَ وَفَضْلِ نِعْمَتِكَ فَضْلًا مِنْكَ عَلَيَّ
فَلَكَ الْحَمْدُ يَا مَوْلَايَ فَاسْئَلْكَ يَا اللَّهُ كَمَا سَتَرْتَهُ عَلَيَّ
فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَفْضَحَنِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ -
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑧ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ سَهَرْتُ فِيهِ لَيْلَتِي
فِي لَدُنِّي فِي التَّائِي لِإِتْيَانِهِ وَالتَّخَلُّصِ إِلَى وَجُودِهِ وَتَحْصِيلِهِ
حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتُ حَضَرْتُ إِلَيْكَ بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ
وَأَنَا مُضْمِرٌ خِلَافَ رِضَاكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑨ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ظَلَمْتُ بِسَبَبِهِ
وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَنَصَرْتُ بِهِ عَدُوًّا مِنْ أَعْدَائِكَ أَوْ تَكَلَّمْتُ

میں ہمیشہ تیرا فرمانبردار بندہ رہا ہوں اور تیرے حکم کی طرف جلدی کرنے والا ہوں اور تیری وعید سے ڈرنے والا ہوں تو میں تیرے بندوں پر ملتبس (مشتبہ) رہا اور تیرے سوا میرے راز کو کوئی نہیں جانتا اور تو نے مجھ کو ان کے راستہ کے غیر پر نہیں چلایا بلکہ ان پر نعمتوں کی مثل مجھ پر مکمل نعمتیں فرماتا رہا پھر تو نے اُن نعمتوں کے ذریعہ اُن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی گویا کہ میں تیری بارگاہ میں تیرے ان بندوں کے درجہ میں ہوں یہ سب تیرے حلم سے ہوا اور تیری جانب سے سراسر تیری نعمت کی زیادتی سے ہوا جو مجھ پر ہوئی تو اے میرے مولا تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں تو نے مجھ پر پردہ ڈالا یہ کہ آخرت میں گناہ کی وجہ سے مجھ کو سزا نہ فرمانا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جس کے کرنے میں میں نے شب بیداری کی اپنی لذت میں اس کے پانے اس کے لانے اور اس کے وجود و تحصیل کی طرف رسائی ہونے میں، یہاں تک کہ جب میں نے صبح کی تو تیری بارگاہ میں نیک بندوں کے لبادہ میں حاضر ہوا جب کہ باطن میں تیری رضامندی کے برخلاف چھپائے ہوئے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے مالک

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۹) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جس کے سبب سے میں نے تیرے ولیوں (دوستوں) میں سے کسی ولی (دوست) پر ظلم کیا اور اس کے ذریعہ تیرے دشمنوں

فِيهِ لِغَيْرِ مَحَبَّتِكَ أَوْ نَهَضْتُ فِيهِ إِلَى عَيْرِ طَاعَتِكَ أَوْ
ذَهَبْتُ إِلَى غَيْرِ أَمْرِكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُوْرْتُ الضَّغْنَاءَ
وَيَحِلُّ الْبَلَاءَ وَيُسْمِتُ الْأَعْدَاءَ وَيَكْشِفُ الْغَطَاءَ وَيَجْبِسُ
الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

میں سے کسی دشمن کی مدد کی یا اس میں نہیں نے تیری محبت کے سوابات کی یا اس میں تیری فرمانبرداری کے غیر کی طرف کھڑا ہو یا اس میں تیرے حکم کے غیر کی طرف چلا۔ تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جو کینہ کو پیدا کرے اور مصیبت کو اتارے اور دشمنوں کو ہنسائے اور پردے کو کھولے اور آسمان سے بارش کے اترنے کو روکے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

دوسری منزل استغفار

بروز مہفتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ اَلْهَانِیْ عَمَّا
هَدَيْتَنِیْ اِلَیْهِ وَاَمَرْتَنِیْ بِهٖ اَوْ نَهَيْتَنِیْ عَنْهُ اَوْ دَلَلْتَنِیْ عَلَیْهِ
مِثَاقِیْهِ الْحَظُّ لِیْ وَالْبُلُوْغُ اِلَیْ رِضَاکَ وَاِتِّبَاعُ مَحَبَّتِکَ وَ
اِیْثَارُ الْقُرْبِ مِنْکَ۔

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَعْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ۔

② اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ نَسِیْتُهٗ فَاَحْصِیْتَهُ
وَتَهَاوَنْتُ بِهٖ فَاثْبَتْهُ وَجَاهَرْتُکَ بِهٖ فَسَتْرْتَهُ عَلَیْ وَ
لَوْ ثَبَّتُ اِلَیْکَ مِنْهُ لَعَفَرْتَهُ۔

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَعْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ۔

دوسری منزل

(۱) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس نے مجھ کو غافل کر دیا اس بات سے جس کی طرف تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور اُس کے کرنے کا تو نے مجھ کو حکم دیا یا اُس کے کرنے سے تو نے مجھ کو منع فرمایا یا اس پر مجھ کو تو نے نشاندہی فرمائی اس امر میں کہ جس میں میرے لئے حصہ ہے اور تیری رضامندی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور تیری محبت کی پیروی ہے اور تیرے قُرب کو ترجیح دینا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جس کو میں بھول گیا اور تو نے اس کو محفوظ رکھا اور میں نے اس کو معمولی سمجھا جب کہ تو نے اس کو درج فرمایا اور میں نے اس کو تیرے سامنے گھلم گھلا کیا اور تو نے اُس کو مجھ پر چھپا دیا اور اگر اُس سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا تو ضرور تو اس کو بخش دیتا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

③ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَقَّعْتُ مِنْكَ
قَبْلَ انْقِضَائِهِ تَعَجِيلَ الْعُقُوبَةِ فَأَمَهَلْتَنِي وَأَسْبَلْتُ
عَلَى سِتْرٍ أَفْلَمَ الْإِنْفِ فِي هَتِكِهِ غَنَى جُهْدًا.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

④ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ
فَخَالَفْتُكَ إِلَيْهِ وَحَذَرْتَنِي إِيَّاهُ فَأَقَمْتُ عَلَيْهِ وَقَبَحْتَهُ
عَلَى فَرِيئَتِهِ لِي نَفْسِي.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَصْرِفُ عَنِّي
رَحْمَتَكَ أَوْ يُحِلُّ لِي نِقْمَتَكَ أَوْ يُحْرِمُنِي كَرَامَتَكَ أَوْ يُزِيلُ
عَنِّي نِعْمَتَكَ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑥ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَيَّرْتُ بِهِ أَحَدًا
مَنْ خَلَقْتَ أَوْ قَبَحْتُ مِنْ فِعْلِ أَحَدٍ مِنْ بَرِيَّتِكَ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ

(۳) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کے پورا ہونے سے پہلے ہی تیری جانب سے گرفت کی میں نے توقع کی تھی اور تو نے مجھے مہلت دی اور تو نے مجھ پر پردہ لٹکایا تو میں نے اس کے چاک کرنے میں اپنی جانب سے کوئی کمی نہ کی۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۴) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس سے تو نے مجھ کو منع فرمایا تو میں نے اس کے کرنے میں تیرے حکم کی مخالفت کی اور تو نے مجھ کو اُس سے ڈرایا جب کہ میں اُس پر قائم ہوا اور تو نے اُس کی برائی مجھ پر ظاہر فرمائی جبکہ اُس گناہ کو میرے نفس نے میرے لئے آراستہ کیا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو مجھ سے تیری رحمت کو پھیرے یا مجھ پر تیری ناراضگی کو نازل کرے یا مجھ کو تیری بخشش و عطا سے محروم کرے یا مجھ سے تیری نعمت کو زائل کرے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۶) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کے ذریعہ میں نے تیری مخلوق میں سے کسی کو عار دلانی ہو یا تیری مخلوق میں سے کسی کے فعل کی برائی بیان کی ہو پھر میں خود اُس میں پڑ گیا اور اُس میں رُسا ہوا۔.....

عَلَيْهِ وَانْتَهَكْتُهُ جَرَاءَةً مِنِّي عَلَيْكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑦ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَزَّكَ عَلَيَّ وَوَجِبَ
فِي شَيْءٍ فَعَلْتُهُ بِسَبَبِ عَهْدٍ عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ أَوْ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ
لَكَ أَوْ ذِمَّةٍ آتَيْتُ بِهَا مِنْ أَجْلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ثُمَّ نَقَضْتُ
ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمْتَنِي فِيهِ بَلِ اسْتَنْزَلَنِي مِنَ
الْوَفَاءِ بِهِ الْبَطْرُ وَأَسْخَطَنِي عَنْ رِعَايَتِهِ الْأَشْرُ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑧ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ بُوَّتُ إِلَيْكَ مِنْهُ
وَأَقْدَمْتُ عَلَى فِعْلِهِ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ وَأَنَا عَلَيْهِ وَ
رَهْبَتُكَ وَأَنَا فِيهِ ثُمَّ اسْتَقَلْتُكَ مِنْهُ وَعُدْتُ إِلَيْهِ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑨ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لِحَقِّنِي بِسَبَبِ
نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْاصِيكَ وَ

تیری بارگاہ میں اپنی طرف سے جرأت کرتے ہوئے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو مجھ پر غالب ہوا اور جو لازم ہوا کسی ایسی چیز میں جس کو میں نے کیا اس عہد کے سبب جس پر میں نے تجھ سے وعدہ کیا یا کسی ایسے پختہ عہد و پیمان کی وجہ سے جو میں نے تجھ سے کیا یا کسی ایسے ذمہ کی وجہ سے جس کی میں نے تیری مخلوق میں سے کسی کے لئے قسم کھائی پھر میں نے اُس عہد کو توڑ ڈالا بغیر کسی ضرورت کے کہ جو مجھ پر لازم ہوئی بلکہ مجھ کو اُس عہد کے پورا کرنے میں تکبر نے پھسلا یا اور اس کی رعایت کرنے سے مجھ کو شیطان نے ناراض کر ڈالا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس سے میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور پھر اس کے کرنے پر میں نے اقدام کیا اور تجھ سے حیاء کی جبکہ اُس پر میں نے جرأت کی اور میں تجھ سے ڈرا جب کہ اُس گناہ کا میں مرتکب ہوا پھر میں نے تیرے حضور اُس سے معافی مانگی اُس کے بعد پھر اُس گناہ کی طرف میں لوٹا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۹) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو مجھ کو لاحق ہوا اُس نعمت کے سبب سے جو نعمت تو نے مجھے انعام فرمائی اور اُس نعمت کی وجہ سے میں نے تیری نافرمانی کرنے پر قوت پائی۔

خَالَفْتُ فِيهَا أَمْرَكَ وَأَقَدَمْتُ بِهَا عَلَى وَعِيدِكَ.
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.
⑩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَدَّمْتُ فِيهِ
شَهْوَتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأَثَرْتُ فِيهِ مَحَبَّتِي عَلَى أَمْرِكَ
فَارْضَيْتُ نَفْسِي بِغَضَبِكَ وَعَرَضْتُهَا لِلسَّخَطِ إِذْ
نَهَيْتَنِي وَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ إِذَا نَذَرَكَ وَتَحَجَّجْتَ عَلَيَّ فِيهِ
بِوَعِيدِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

اور میں نے تیرے حکم کی مخالفت کی اور اس نعمت کی وجہ سے میں نے تیری وعید پر اقدام کیا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس میں میں نے تیری فرمانبرداری پر اپنی شہوت کو مقدم کیا اور اس میں اپنی محبت کو تیرے حکم پر ترجیح دی اور تیرے غضب کے ساتھ اپنے نفس کو خوش کیا اور نفس کو تیری ناراضگی کے لئے پیش کیا جب تو نے مجھ کو منع فرمایا اور اس میں تو نے پہلے ہی مجھ کو ڈرایا اور اس کا ارتکاب کرنے سے تو نے اپنی وعید کے ذریعے مجھ پر حجاب فرمایا اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اے اللہ اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

تیسری منزل استغفار

بُرُزُ الْوَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَلِمْتُهُ
مِنْ نَفْسِي فَأَنْسِيتهُ أَوْ ذَكَرْتُهُ أَوْ تَعَمَّدْتُهُ أَوْ أَخْطَأْتُ
فِيهِ وَهُوَ مِمَّا لَا أَشْكُ أَنَّكَ مُسَائِلِي عَنْهُ وَأَنَّ نَفْسِي بِهِ
مُرْتَهَنَةٌ لَدَيْكَ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ نَسِيتهُ وَعَقَلْتُ عَنْهُ نَفْسِي -
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

② اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ وَاجْهْتُكَ فِيهِ
وَقَدْ أَيَقَنْتُ أَنَّكَ تَرَانِي عَلَيْهِ فَنَوَيْتُ أَنْ أَتُوبَ إِلَيْكَ مِنْهُ
وَأَنْسَيْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَكَ مِنْهُ أَنْسَانِيهِ الشَّيْطَانُ -
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

تیسری منزل

(۱) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کو میں نے اپنے نفس میں جانا اور اس کو بھلا دیا یا اس کو یاد رکھا یا اس کو میں نے جان بوجھ کر کیا یا اُس میں میں نے خطا کی حالانکہ وہ گناہ اُن گناہوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں میں شک نہیں کرتا کہ تو مجھ سے اُس کے متعلق پوچھے گا اور بے شک اُس گناہ کے بدلے میرا نفس تیری بارگاہ میں گروی رکھا ہوا ہے، اگرچہ میں اُس گناہ کو بھول گیا اور اُس سے میرا نفس غافل ہو گیا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کو میں نے تیرے حضور علی الاعلان کیا اور تحقیق میں نے اس بات کا یقین کیا کہ تو اُس گناہ پر مجھ کو دیکھتا ہے تو میں نے یہ نیت کی کہ اُس گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کروں گا اور مجھ کو بھلا دیا گیا کہ میں اُس گناہ سے تجھ سے مغفرت طلب کروں اور اس سے مجھ کو شیطان نے بھلایا۔ تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

③ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ دَخَلْتُ فِيهِ
بِحُسْنِ ظَنِّي فِيكَ أَنْكَ لَا تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ وَرَجَوْتُكَ لِغَفْرَتِهِ
فَأَقْدَمْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَوَّلْتُ نَفْسِي عَلَى مَعْرِفَتِي بِكَرَمِكَ
أَنْ لَا تَفْضَحْنِي بِهِ بَعْدَ إِذْ سَتَرْتَهُ عَلَيَّ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

④ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اسْتَوْجَبْتُ بِهِ
مِنْكَ رَدَّ الدُّعَاءِ وَحِرْمَانَ الْأَجَابَةِ وَخَيْبَةَ الطَّمَعِ وَ
انْقِطَاعَ الرَّجَاءِ

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ الْأَسْقَامَ
وَالضَّرِيضَةَ وَيُوجِبُ النِّقَمَ وَالْبَلَاءَ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَسْرَةً وَنَدَامَةً.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑥ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَعْقِبُ الْحَسْرَةَ

(۳) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس میں میں داخل ہوا تیرے بارے اپنے اس گمان سے کہ اُس گناہ پر تو مجھ کو عذاب نہیں دے گا اور میں نے تجھ پر اُمید کی اُس گناہ کے بخش دینے کی تو میں نے اُس گناہ پر اقدام کیا اور میرے نفس نے سرکشی کی اس بنا پر کہ میں تیرے کرم کو جانتا ہوں کہ تو اُس گناہ کی وجہ سے مجھ کو روانہ کرے گا بعد اس کے کہ تو نے میری پردہ پوشی فرمائی۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۴) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ پر تیری طرف سے دعا کے رد ہونے کو اور دعا کے مقبول ہونے سے محرومیت کو واجب کیا اور آرزو کے پورا نہ ہونے اور اُمید کے ٹوٹ جانے کو لازم کیا۔ تو اے میرے پروردگار تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو بیماریوں میں مبتلا کرے اور لاغر و کمزور کرے اور عذاب و بلاؤں کو ثابت کرے اور قیامت کے دن حسرت و ندامت ہو۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۶) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو اپنے پیچھے حسرت کو لائے

وَيُورِثُ النَّدَامَةَ وَيَحْبِسُ الرِّزْقَ وَيَرُدُّ الدُّعَاءَ
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑦ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَدَحْتَهُ
بِلِسَانِي أَوْ أَضْمَرْتَهُ بِجَنَانِي أَوْ هَشَّتُ إِلَيْهِ نَفْسِي أَوْ
أَثْبَتُهُ بِلِسَانِي أَوْ أَتَيْتُهُ بِفِعَالِي أَوْ كَتَبْتُهُ بِيَدِي أَوْ
ازْتَكَبْتُهُ أَوْ أَرَكَبْتُ فِيهِ عِبَادَكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑧ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَلَوْتُ بِهِ
فِي لَيْلِي وَنَهَارِي وَأَرَخَيْتُ فِيهِ عَلَى السَّارِحِيثُ
لَا يَرَانِي فِيهِ إِلَّا أَنْتَ يَا جَبَّارُ فَارْتَابَتْ نَفْسِي فِيهِ
وَتَحَيَّرْتُ بَيْنَ تَرْكِي لَهُ بِخَوْفِكَ وَأَنْتِهَاكِي لَهُ بِحُسْنِ
الظَّنِّ فِيكَ فَسَوَّلْتُ لِي نَفْسِي الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ وَأَنَا
عَارِفٌ بِمَعْصِيَتِي فِيهِ لَكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

اور ندامت کو پیدا کرے اور رزق کو روکے اور دعا کو رد کرے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کی میں نے تعریف کی اپنی زبان سے یا میں نے اُس کو چھپایا اپنے دل میں یا اُس کی طرف میرا نفس خوش ہو یا اُس کو میں نے اپنی زبان سے ثابت کیا یا اپنے افعال سے لایا یا اُس کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور میں نے اُس کا ارتکاب کیا یا اُس میں تیرے بندوں کو مرتکب کیا۔ تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کو میں نے تنہائی میں کیا اپنی رات اور اپنے دن میں اور اس میں تو نے مجھ پر پردہ لٹکایا اس طرح کہ اُس میں مجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں دیکھتا اے جبار! پس میرے نفس نے اُس میں شک کیا اور میں اس حیرت میں پڑا کہ اُس گناہ کو تیرے خوف سے چھوڑ دوں یا اُس میں لگا رہوں تیری بارگاہ میں حُسنِ ظن کی وجہ سے اور اُس گناہ پر اقدام کرنے کو میرے لئے میرے نفس نے ہموار کیا اور میں اُس گناہ میں تیرے حضور اپنی نافرمانی کرنے کو جانتا ہوں۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

⑨ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ إِسْتَقَلَّتْهُ
فَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ
فِيهِ جَهْلِي بِهِ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَضَلَّتْ بِهِ
أَحَدًا مِمَّنْ خَلَقْتَ أَوْ أَسَأْتُ بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِمَّنْ بَرَّيْتِكَ
أَوْ زَيْنْتَهُ لِي نَفْسِي أَوْ أَشَرْتُ بِهِ إِلَى غَيْرِي أَوْ دَلَلْتُ
عَلَيْهِ سِوَايَ وَأَصْرَرْتُ عَلَيْهِ بِعَمْدٍ مَيَّ أَوْ أَقَمْتُ
عَلَيْهِ بِجَهْلِي -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

(۹) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کو میں نے قلیل سمجھا اور تیری بارگاہ میں وہ عظیم تھا میں نے اُس کو چھوٹا سمجھا اور تیری بارگاہ میں وہ بڑا تھا اور اُس گناہ میں مجھ کو میری نادانی نے ہلاکت میں ڈالا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کے ذریعے میں نے تیری مخلوق میں سے کسی کو راہ سے ہٹایا یا اُس گناہ کے ذریعے تیری مخلوق میں سے کسی سے بُرا سلوک کیا یا اُس کو میرے لئے میرے نفس نے آراستہ کیا یا اُس گناہ کے کرنے کا اپنے غیر کو اشارہ کیا یا اپنے سوا دوسرے کو اُس گناہ پر راہنمائی کی اور اس پر اصرار کیا اپنے جاننے کے باوجود یا اپنے نہ جاننے کی وجہ سے اُس پر قائم رہا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

چوتھی منزل استغفار

بُرُزِیْر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ خُنتُ بِهٖ
اَمَانَتِیْ اَوْ اَحْسَنْتُ لِیْ نَفْسِیْ فِعْلَهٗ اَوْ اَخْطَا تُ بِهٖ عَلٰی
بَدَنِیْ اَوْ قَدَّمْتُ فِیْهِ عَلَیْکَ شَهْوَتِیْ اَوْ کَثَرْتُ فِیْهِ
لَدَتِّیْ اَوْ سَعَيْتُ فِیْهِ لِغَیْرِیْ اَوْ اَسْتَغْوَيْتُ اِلَیْهِ مِنْ
تَابَعَتِّیْ اَوْ کَا بَرْتُ فِیْهِ مِنْ مَّانَعَتِّیْ اَوْ قَهَرْتُ عَلَیْهِ
مَنْ غَلَبَنِیْ اَوْ غَلَبْتُ عَلَیْهِ بِحِیْلَتِیْ اَوْ اسْتَنْزَلَنِیْ
اِلَیْهِ مَیْلِیْ۔

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ۔

② اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ اِسْتَعْنْتُ
عَلَیْهِ بِحِیْلَةٍ تُدْنِیْ مِنْ غَضَبِکَ اَوْ اسْتَظْهَرْتُ بِنِیْلِهِ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

چوتھی منزل

(۱) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کے ذریعہ میں نے اپنی امانت میں خیانت کی یا اس کے کرنے کو میرے نفس نے میرے لئے اچھا کیا یا اس کے ذریعے میں نے اپنے بدن پر خطا کی یا اس میں میں نے تیرے حکم پر اپنی شہوت کو مقدم کیا یا اس میں میں نے اپنی شہوت کو زیادہ کیا یا اس گناہ میں میں نے کوشش کی اپنے غیر کے لئے یا میں نے اُس گناہ کی طرف گمراہ کیا (نفس نے) اس کو جس نے میری اتباع کی یا میں نے مکابرہ کیا اُس گناہ میں اس سے جو مجھے اس کے کرنے سے مانع ہوایا میں نے غلبہ پایا اس گناہ کے ارتکاب میں اس پر جس نے مجھ پر غلبہ پایا (گناہ سے روکنے میں) یا میں نے اس پر غلبہ پایا اپنے حیلہ (نفس) سے یا اس گناہ کی طرف میرے میلان نے مجھ کو پھسلا دیا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس پر میں نے مدد طلب کی کسی ایسے حیلہ سے جو مجھ کو قریب ہے تیرے غضب سے یا اس کے پانے میں میں نے غلبہ پایا

عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ أَوْ اسْتَلَمْتُ بِهِ أَحَدًا مِنْ
خَلْقِكَ إِلَىٰ مَعْصِيَتِكَ أَوْ رُمْتُهُ وَرَأَيْتُ بِهِ عِبَادَكَ
أَوْ لَبِسْتُ عَلَيْهِ بِفَعَالِي كَأَنِّي بِجِيلَتِي أُرِيدُكَ
وَالْمُرَادُ بِهِ مَعْصِيَتِكَ وَالهُوَىٰ مُنْصَرَفٌ عَنْ طَاعَتِكَ.
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.
③ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ كَتَبْتَهُ عَلَيَّ
بِسَبَبِ عُجْبٍ كَانَ مِنِّي بِنَفْسِي أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ
أَوْ حِقْدٍ أَوْ شَحْنَاءٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ خِيَلَاءٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ
مَرَحٍ أَوْ عِنَادٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ أَشْرٍ أَوْ بَطْرِ أَوْ حَمِيَّةٍ أَوْ
عَصَبِيَّةٍ أَوْ رِضَاءٍ أَوْ رَجَاءٍ أَوْ شُحٍّ أَوْ سَخَاءٍ أَوْ ظَلَمٍ
أَوْ حِيلَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ كَذِبٍ أَوْ غِيْبَةٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ لُغْوٍ
أَوْ نَمِيمَةٍ أَوْ لَعْبٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ مِمَّا يَكْتَسَبُ
بِمِثْلِهِ الذُّنُوبُ وَيَكُونُ فِي اتِّبَاعِهِ الْعَطْبُ وَالْحُوبُ.
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.
④ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ رَهَيْتُ فِيهِ

تیری اطاعت کرنے والوں پر یا اس کے ذریعے میں نے مائل کیا تیری نافرمانی کی طرف تیری مخلوق میں سے کسی کو یا میں نے اس کا ارادہ کیا یا تیرے بندوں کو دکھایا یا اپنے کرتوتوں کے ذریعہ خلط ملط کیا گویا کہ اپنے حیلہ کے ذریعہ تیری رضا کا ارادہ کرتا ہوں جب کہ اس سے مقصد تیری نافرمانی کرنا تھی اور خواہش (نفس) تیری فرمانبرداری سے پھری ہوئی ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۳) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو تو نے مجھ پر لکھا بسبب اس خود پسندی کے کہ جو میری جانب سے میرے نفس کی وجہ سے تھی یا ریا کاری یا دکھلاوے یا کینہ یا بغض یا خیانت یا تکبر یا اکڑنے یا اترانے یا نفرت یا عصبیت یا خوشی یا امید یا بُخل یا سخاوت (بے جا) یا ظلم یا حیلہ (نفس) یا چوری یا جھوٹ یا غیبت یا کھیل یا فالو (امور) یا چغلی یا کھیل کو دیا گناہوں کی قسموں میں سے کسی قسم سے بھی کہ جس کی مثل سے گناہ کمایا جاتا ہے اور اس کی اتباع میں ہلاکت اور غم و وحشت ہوتی ہے

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے۔

(۴) اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس میں میں تیرے

سوا کسی اور سے ڈرا

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سِوَاكَ وَعَادَيْتُ فِيهِ أَوْلِيَاءَكَ وَوَالَيْتُ فِيهِ أَعْدَاءَكَ
وَخَذَلْتُ فِيهِ أَحِبَّاءَكَ وَتَعَرَّضْتُ لِشَنِيٍّ مِنْ غَضَبِكَ
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑤ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ سَبَقَ فِيهِ
عِلْمُكَ أَنِّي فَاعِلُهُ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَيَّ
وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑥ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَبَّتْ إِلَيْكَ
مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَنَقَضْتُ فِيهِ الْعَهْدَ فِيمَا بَيْنِي
وَبَيْنَكَ جَرَاءَةً مِنِّي عَلَيْكَ لِمَعْرِفَتِي بِعَفْوِكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑦ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ آدَنَانِي مِنْ
عَذَابِكَ أَوْ أَنَانِي مِنْ ثَوَابِكَ أَوْ حَجَبَ عَنِّي رَحْمَتَكَ أَوْ
كَذَّرَ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ -

اور اس میں تیرے ولیوں (اہلسنت کے بزرگوں) کے ساتھ دشمنی کی اور اس میں میں نے تیرے دشمنوں (یعنی کافروں، بد مذہبوں اور گمراہوں) سے دوستی کی اور اس میں تیرے محبوبوں کو رُسوا کیا اور تیرے غضب میں کسی چیز کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو تیرے علم میں سابق ہوا کہ میں اس کو کرنے والا ہوں تیری قدرت سے کہ جس کے ذریعہ تو مجھ پر اور ہر شی پر قادر ہوا۔

تو اے میرے پروردگار تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۶) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس سے میں نے تیری بارگاہ کی طرف توبہ کی پھر اس گناہ میں لوٹا اور اس میں میں نے اپنے اور تیرے درمیان عہد کو توڑا تجھ پر اپنی طرف سے جرات کرتے ہوئے اس لئے کہ میں جاننے والا ہوں تیرے درگزر فرمانے کو۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس نے مجھ کو تیرے عذاب سے قریب کر دیا یا مجھ کو تیرے ثواب سے دُور کر دیا یا مجھ سے تیری رحمت کو روک دیا یا مجھ پر تیری نعمت کو تنگ کر دیا۔

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑧ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ حَلَلْتُ بِهِ
عَقْدًا اشْتَدَّتْهُ بِهِ أَوْ شَدَّدْتُ بِهِ عَقْدًا أَحَلَلْتَهُ بِخَيْرٍ
وَعَدْتَهُ فَلَجِحْتَنِي شُحٌّ فِي نَفْسِي حَرَمْتُ بِهِ خَيْرًا
أَسْتَحِقُّهُ أَوْ حَرَمْتُ بِهِ نَفْسًا اسْتَحِقُّهُ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑨ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ارْتَكَبْتُهُ
بِسُؤْلِ عَافِيَتِكَ أَوْ تَمَكَّنْتُ مِنْهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ أَوْ
تَقْوَيْتُ بِهِ عَلَى دَفْعِ نِقْمَتِكَ عَنِّي أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ
يَدِي بِسَابِغِ رِزْقِكَ أَوْ خَيْرًا رَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ
فَخَالَطَنِي فِيهِ شُحٌّ نَفْسِي بِمَالَيْسَ فِيهِ رِضَاكَ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑩ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ دَعَانِي إِلَيْهِ
الرُّخْصُ أَوْ الْحِرْصُ فَرَعَبْتُ فِيهِ وَحَلَلْتُ لِنَفْسِي

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کے ذریعہ میں نے اس گرہ کو کھولا جس کو تو نے مضبوط باندھا یا اس گناہ کے ذریعہ اس گرہ کو مضبوط باندھا جس کو تو نے کھولا اس خیر سے جس کا تو نے وعدہ فرمایا پس لاحق ہو گئی مجھ کو میرے نفس میں ایسی محرومیت جس کے ذریعہ میں بھلائی سے محروم ہو گیا یا میں نے محروم کیا اس کے ذریعہ کسی نفس کو (اس چیز سے) جس کا وہ مستحق تھا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۹) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کا میں نے ارتکاب کیا تیری عافیت کے عام ہونے کی وجہ سے یا میں نے اس پر قابو پایا تیری نعمت کے فضل کی وجہ سے یا اس پر میں نے قوت پائی تیرے عذاب کے مجھ سے دفع ہونے کی بنا پر یا اس کی طرف میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تیرے رزق کی فراوانی کی وجہ سے یا کوئی ایسی بھلائی کہ جس سے میں نے تیری رضامندی کا ارادہ کیا اور اس میں میرے نفس کے بخل نے میرے لئے ملاوٹ کر ڈالی اس چیز کی جس میں تیری رضامندی نہیں ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کی طرف مجھ کو رختوں نے یا لالچ نے بلایا تو میں اس میں راغب ہو گیا اور میں نے اپنے نفس کے لئے وہ چیز حلال کی

مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَكَ -
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

جو کہ تیرے نزدیک حرام کردہ تھی۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ
معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

پانچویں منزل استغفار بُرُزْ مِنْكُل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ خَفِیَ عَلٰی
خَلْقِكَ وَلَمْ یَعْرُبْ عَنْكَ فَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاقْلَتْنِیْ
ثُمَّ عُدْتُ فِیْهِ فَسَتَّرْتَهُ عَلٰی۔

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ
② اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ خَطُوْتُ
اِلَیْهِ بِرِجْلِیْ اَوْ مَدَدْتُ اِلَیْهِ یَدِیْ اَوْ تَامَلْتُهُ بِبَصْرِیْ
اَوْ اَصْغَيْتُ اِلَیْهِ بِاُذُنِیْ، اَوْ نَطَقْتُ بِهٖ بِلِسَانِیْ اَوْ
اَتَلَفْتُ فِیْهِ مَا رَزَقْتَنِیْ ثُمَّ اسْتَزَقْتُكَ عَلٰی عِصْیَانِیْ
فَرَزَقْتَنِیْ ثُمَّ اسْتَعْنْتُ بِرِزْقِكَ عَلٰی عِصْیَانِکَ
فَسَتَّرْتَ عَلٰی ثُمَّ سَأَلْتُكَ الزَّیَادَةَ فَلَمْ تَحْرِمْنِیْ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پانچویں منزل

(۱) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو تیری مخلوق سے پوشیدہ ہو جب کہ تجھ سے نہ چھپ سکا پھر میں نے تیری بارگاہ میں اس سے توبہ کی اس پر تو نے میری توبہ کو قبول فرمایا پھر اس گناہ میں میں لوٹا اور تو نے اس کی مجھ سے پردہ پوشی فرمائی۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کی طرف میں اپنے پاؤں سے چلایا یا اس کی طرف میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا یا اس کو میں نے تاڑا اپنی آنکھ سے یا اس کی طرف اپنے کان کو لگایا یا اس کو میں نے اپنی زبان سے بولا یا اس گناہ میں برباد کیا وہ رزق جو تو نے مجھ کو دیا، پھر میں نے اپنی نافرمانی کے باوجود تجھ سے رزق طلب کیا اس پر تو نے مجھ کو رزق عطا فرمایا پھر میں نے تیرے رزق سے تیری نافرمانی کرنے پر مدد طلب کی اس پر تو نے میری پردہ پوشی فرمائی، پھر میں نے تجھ سے زیادتی رزق کا سوال کیا اور تو نے مجھ کو محروم نہ فرمایا

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ثُمَّ جَاهَرْتُكَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ فَلَمْ تَفْضَحْنِي فَلَا
أَزَالُ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَلَا تَزَالُ عَائِدًا بِحِلْمِكَ
وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

③ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ صَغِيرَةً
أَلَيْمَةً عَذَابِكَ وَجُجُلَ كَبِيرَةٍ شَدِيدَ عِقَابِكَ وَفِي آيَاتِهِ
تَعْجِيلُ نِقْمَتِكَ وَفِي الْأَصْرَارِ عَلَيْهِ زَوَالُ نِعْمَتِكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

④ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَمْ يَطَّلِعْ
عَلَيْهِ أَحَدٌ سِوَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُكَ مِمَّا
لَا يُنْجِيَنِي مِنْهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ
وَحِلْمُكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُزِيلُ النِّعَمَ

پھر رزق کی زیادتی کے بعد میں نے کھل کر تیری نافرمانی کی اور تو نے پھر بھی مجھ کو رسوا نہ فرمایا اور میں برابر تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھ سے اپنے حلم اور کرم کا معاملہ فرماتا رہا اے سب سے بہتر کرم فرمانے والے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۳) اے اللہ بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کا چھوٹا تیز ذرہ دردناک عذاب کو ثابت کرتا ہے اور اس کا بڑا تیرے سخت عذاب کو اتارتا ہے اور اُس گناہ کا ارتکاب کرنے پر تیرا عذاب جلدی کرتا ہے اور اس پر اصرار سے تیری نعمت زائل ہوتی ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۴) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس پر تیرے (اور تیری عطا سے تیرے محبوب ﷺ اور اولیاء کرام کے) سوا کسی کو اطلاع نہ ہوئی اور اس کو تیرے (اور تیرے محبوب ﷺ اور اولیاء کرام کے) سوا کسی نے نہ جانا اُس گناہ سے کہ جس سے تیری درگزر ہی مجھ کو نجات دے گی اور اس کو تیری مغفرت اور تیرا حلم ہی سمو سکتا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو نعمتوں کو زائل کرے

وَيُجِلُّ النِّقَمَ وَيَهْتِكُ الْحَرَمَ وَيُطِيلُ السَّقَمَ وَ
وَيُعَجِّلُ الْأَلَمَ وَيُورِثُ النَّدَمَ -
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ
⑥ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَمْحَقُ
الْحَسَنَاتِ وَيُضَاعِفُ السَّيِّئَاتِ وَيُجِلُّ النَّقَمَاتِ
وَيُغْضِبُكَ يَا رَبَّ السَّمَوَاتِ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑦ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَنْتَ أَحَقُّ
بِمَغْفِرَتِهِ إِذْ كُنْتُ أَوْلَى بِسِرِّهِ فَإِنَّكَ أَهْلُ الثَّقْوَى وَ
أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑧ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ظَلَمْتُ بِسَبَبِهِ
وَنِيَامِنُ أَوْلِيَاءِكَ مُسَاعِدَةً لِأَعْدَائِكَ وَمَيْلًا مَعَ أَهْلِ
مَعْصِيَتِكَ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ -

اور عذاب کو اتارے اور شرافت و بزرگی کو ختم کرے اور بیماری کو لمبا کرے اور درد کو جلدی لائے اور پشیمانی میں مبتلا کرے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۶) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو نیکیوں کو مٹائے اور برائیوں کو بڑھائے اور عذابوں کو اتارے اور تجھ کو ناراض کرے اے آسمانوں کے پروردگار!

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے کہ جس کو بخشنے کا تو زیادہ حق دار ہے کیونکہ تو ہی اس کو چھپانے کا زیادہ سزا دار ہے بے شک تجھ ہی سے ڈرنا چاہئے اور تو ہی بخشنے والا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کے سبب سے میں نے تیرے ولیوں (دوستوں) میں سے کسی ولی (دوست) پر ظلم کیا تیرے دشمنوں کی مدد کرتے ہوئے اور تیری نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ میلان کرتے ہوئے تیری اطاعت کرنے والوں کی مخالفت میں۔

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑨ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ الْبَسَنِيِّ كَثْرَةً
إِنِّهَمَا كِي فِيهِ ذِلَّةٌ وَأَيْسَنِي مِنْ وُجُودِ رَحْمَتِكَ أَوْ قَصَرَ
بِي الْيَأْسُ عَنِ الرَّجُوعِ إِلَى طَاعَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِعَظِيمِ
جُرْمِي وَسُوءِ ظَنِّي بِنَفْسِي -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ أَوْرَثَنِي
الْهَلَكَةَ لَوْلَا حِلْمُكَ وَرَحْمَتُكَ وَأَدْخَلَنِي دَارَ الْبُورِ
لَوْلَا نِعْمَتُكَ وَسَلَّكَ بِي سَبِيلَ الْغِنَى لَوْلَا إِرْشَادُكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۹) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس میں میرے کثرت سے مُنہمک (ڈوبے) ہونے نے مجھ کو ذلت کا لباس پہنایا اور مجھ کو تیری رحمت پائے جانے سے مایوس کیا یا مجھ کو تیری فرمانبرداری کی طرف لوٹنے سے ناامیدی نے روکا، مہرے اپنے جرم کے بڑے ہونے کی پہچان کی وجہ سے اور میرے اپنے نفس کے ساتھ میرا گمان بُرا ہونے کی وجہ سے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے کہ اگر تیرا حلم اور تیری رحمت نہ ہوتی تو مجھے تباہی میں ڈال دیتا اور اگر تیری نعمت نہ ہوتی تو مجھے جہنم میں داخل کر دیتا اور اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو مجھے گمراہی کے راستے پر چلا دیتا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

پھی منزل استغفار

برز بدھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ یَّکُوْنُ فِیْ
اِحْتِرَاحِیْهِ قَطْعُ الرَّجَاۃِ وَرَدُّ الدُّعَاۃِ وَتَوَاتُرُ الْبَلَاۃِ
وَ تَرَادُّفُ الْهُمُوْمِ وَ تَضَاعُفُ الْغُمُوْمِ۔

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَغْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ۔

② اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ یَّرُدُّ عَنْکَ
دُعَاۃِیْ وَ یَطِیْلُ فِیْ سَخِطِکَ عَنَّاۤیْ اَوْ یُقْصِرُ عَنْکَ اَمَلِیْ
فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَغْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ۔

③ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ وَ یُمِیْتُ
الْقَلْبَ وَ یُشْعِلُ الْکَرْبَ وَ یُشْغِلُ الْفِکْرَ وَ یُرِضِیْ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

چھٹی منزل

(۱) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو مجھ کو ہلاکت میں ڈالتا، اگر تیرا حلم اور تیری رحمت نہ ہوتی اور مجھ کو بربادی کے گھر میں داخل کرتا اگر تیری نعمت نہ ہوتی اور وہ گناہ مجھ کو گمراہی کے راستے لے چلتا اگر تیری رہنمائی نہ ہوتی۔ تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ سے جو تیری بارگاہ سے میری دعا کو رد کرے اور تیری ناراضگی میں طول دے میری تھکاوٹ کو یا تجھ سے میری اُمید کو کم کرے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۳) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو دل کو مُردہ کرے اور کرب کو بھڑکائے اور فکر کو مشغول کرے اور

الشَّيْطَانَ وَيُخِطُّ الرَّحْمَنَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
④ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعَقِّبُ الْيَأْسَ
مِنْ رَحْمَتِكَ وَالْقُنُوطَ مِنْ مَغْفِرَتِكَ وَالْحُرْمَانَ مِنْ
سِعَةِ مَا عِنْدَكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَغْفِرْهُ لِي خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَمَقَّتْ عَلَيْهِ
نَفْسِي إِجْلَالًا لَكَ وَأَظْهَرْتُ لَكَ التَّوْبَةَ فَقَبِلْتَ وَ
سَأَلْتُكَ الْعَفْوَ فَعَفَوْتَ ثُمَّ أَعَادَنِي الْهَوَى إِلَى مُعَاوَدَتِي
طَمَعًا فِي سِعَةِ رَحْمَتِكَ وَكَرَمِ عَفْوِكَ نَاسِيًا لَوَعِيدِكَ
رَاجِيًا لِجَمِيلِ وَعْدِكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑥ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ سُوَادَ
الْوَجْهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَأُولِيَاكَ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ

شیطان (مردود) کو راضی کرے اور رحمن (اللہ تعالیٰ) کو ناراض کرے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۴) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو اپنے پیچھے تیری رحمت سے نا اُمیدی کولاتا ہے اور تیری مغفرت سے مایوسی کولاتا ہے اور وہ فراخی جو تیری بارگاہ میں ہے اور اس سے محرومی کولاتا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس پر میں نے ناراض کیا اپنے نفس کو تیری تعظیم کے لئے اور تیرے حضور میں نے توبہ ظاہر کی پس تو نے قبول فرمائی اور تجھ سے میں نے مُعافی کا سوال کیا پس تو نے معاف فرمایا پھر مجھ کو میری نفسانی خواہش نے میری عادت کی طرف لوٹایا تیری رحمت کی وسعت میں لالچ کرتے ہوئے اور تیری معافی کے کرم کی وسعت میں نظر کرتے ہوئے تیری وعید کو بھولتے ہوئے تیرے خوبصورت وعدے کی امید کرتے ہوئے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۶) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو چہرے کی سیاہی کو پیدا کرے اس دن کہ جس میں تیرے ولیوں کے چہرے روشن ہوں گے اور تیرے دشمنوں کے چہرے کالے ہوں گے

أَعَدَّ اِيَّاكَ إِذَا قَبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
فَتَقُولُ لَأَخْتَصِمُوا لَدَايَ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ-

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ-

⑦ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ فَهِمْتُهُ وَصَمَمْتُ

عَنْهُ حَيَاءً مِنْكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ أَوْ كَتَمْتُهُ فِي صَدْرِي

وَعَلِمْتُهُ مِنِّي فَإِنَّكَ تَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى-

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ-

⑧ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُبْغِضُنِي إِلَى

عِبَادِكَ وَيُنْفِرُ عَنِّي أَوْلِيَاءَكَ أَوْ يُوحِشُنِي مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ

بِوَحْشَةِ الْمَعَاصِي وَرُكُوبِ الْحُوبِ وَارْتِكَابِ الذُّنُوبِ-

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ-

⑨ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُو إِلَى

الْكُفْرِ وَيُطِيلُ الْفِكَرَ وَيُورِثُ الْفَقْرَ وَيَجْلِبُ

الْعُسْرَ وَيُصِدِّدُ عَنِ الْخَيْرِ وَيَهْتِكُ السِّرَّ وَيَمْنَعُ الْبُيُوتَ

جب بعض بعض کو ملامت کریں گے اس پر تو فرمائے گا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو اور بے شک میں نے تمہاری طرف پہلے ہی وعید بھیجی تھی۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی کہ جس کو میں نے سمجھا اور اُس سے خاموشی اختیار کی تجھ سے حیا کرتے ہوئے اُس کے ذکر کے وقت یا اُس گناہ کو میں نے اپنے سینے میں چھپایا جب کہ تو نے وہ گناہ جانا جو میری جانب سے ہوا اور بے شک تو راز کو اور اس سے بھی زیادہ پوشیدگی کو جانتا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! بے شک میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو مجھے تیرے خاص بندوں کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کرے اور تیرے ولیوں کو مجھ سے نفرت کرنے والا بنائے یا مجھ کو تیری فرمانبرداری کرنے والوں سے وحشت میں ڈالے گناہوں کی وحشت کی وجہ سے اور گناہوں کے سوار ہونے اور گناہوں کا ارتکاب کی وجہ سے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۹) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو کفر کی طرف بلاتا ہے (بد مذہبوں کی طرف میلان) اور فکر کو لمبا کرتا ہے اور محتاجی میں مبتلا کرتا ہے اور تنگی کو کھینچتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے اور پردہ دری کرتا ہے اور آسانی کو روکتا ہے۔

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُدْنِي الْأَجَالَ
وَيَقْطَعُ الْأَمَالَ وَيَشِينُ الْأَعْمَالَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ
معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو موت
کو قریب کرے اور اُمیدوں کو توڑے اور اعمال کو عیب دار کر دے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ
معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

ساتویں منزل استغفار

بروز جمعرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① — اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ یُّدْنِسُ مَاطَهْرَتَهُ
وَيُکْشِفُ عَنِّیْ مَا سَتَرْتَهُ اَوْ یُقْبِحُ مِنِّیْ مَا زَيَّنْتَهُ -

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ -

② — اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ لَا یُنَالُ بِهٖ
عَهْدُکَ وَلَا یُؤْمَنُ مَعَهُ غَضَبُکَ وَلَا تَنْزِلُ بِهٖ
رَحْمَتُکَ وَلَا تَدُوْمُ مَعِیْ نِعْمَتُکَ -

فَصَلِّ یَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِیْ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیْنَ -

③ — اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِکُلِّ ذَنْبٍ اِسْتَحْفِیْتُ
بِهٖ فِیْ ضَوْءِ النَّهَارِ عَنْ عِبَادِکَ وَبَارَزْتُکَ بِهٖ فِیْ ظُلْمَةِ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ساتویں منزل

(۱) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو میلا کرتا ہے اس چیز کو جس کو تو نے پاک فرمایا ہے اور کھوتا ہے مجھ سے اس چیز کو جس کو تو نے ڈھانپا ہے یا برائی بیان کرتا ہے مجھ سے اس چیز کی جس کو تو نے آراستہ فرمایا ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۲) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کی وجہ سے نہیں پایا جاسکتا تیرے وعدے کو اور جس کے ساتھ تیرے غضب سے امن والا نہیں ہوا جاسکتا اور اس کی وجہ سے تیری رحمت نہیں نازل ہوتی اور تیری نعمت میرے ساتھ ہمیشگی سے نہیں رہتی۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۳) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کو میں نے تیرے بندوں سے چھپا کر کیا دن کی روشنی میں اور جس کو میں نے تیرے حضور ظاہر کیا رات کی تاریکی میں

اللَّيْلِ جَرَاءَةً مِنِّي عَلَيْكَ عَلَىٰ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ السِّرَّ عِنْدَكَ
عَلَانِيَةً وَأَنَّ الْخَفِيَّةَ عِنْدَكَ بَارِزَةٌ وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي
مِنْكَ مَانِعٌ، وَلَا يَنْفَعُنِي عِنْدَكَ نَافِعٌ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ إِلَّا أَنْ
أَتَيْتُكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

④ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ النَّسِيَانَ
لِيذِّكَرَ أَوْ يُعَقِّبُ الْغَفْلَةَ عَنْ تَحْذِيرِكَ وَيَتِمَّ أَدَىٰ بَنِي إِلَى
الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِكَ أَوْ يُؤَيِّسُنِي مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لِحَقَّتِي بِسَبَبِ
عَثْبِي عَلَيْكَ فِي أَحْبَابِ الرِّزْقِ عَلَيَّ وَشِكَايَتِي مِنْكَ
وَإِعْرَاضِي عَنْكَ وَمِيلَتِي إِلَىٰ عِبَادِكَ بِالْإِسْتِكَانَةِ لَهُمْ
وَالنَّضْرُوعِ إِلَيْهِمْ وَقَدْ أَسْمَعْتَنِي قَوْلِكَ فِي مُحْكَمِ
كِتَابِكَ فَمَا اسْتَكَانُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَنْضَرُّعُونَ.

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جرات کرتے ہوئے اپنی طرف سے تجھ پر باوجود اس کے کہ مجھے علم ہے کہ بھید (میں کیا جانے والا گناہ بھی) تیرے حضور کھلم کھلا ہے اور پوشیدگی (میں کیا جانے والا گناہ بھی) تیری بارگاہ میں ظاہر ہے اور تیری مجھ پر گرفت کرنے سے مجھ کو کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی تیرے حضور (تیری اجازت کے بغیر) مجھے کوئی نفع دینے والا نفع دے سکتا ہے مال ہو خواہ بیٹے مگر یہ کہ میں نے تیرے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوں۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۴) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو تیرے ذکر کو بھلا دینے کا باعث ہے یا وہ گناہ جو اپنے پیچھے تیری تحذیر و ڈر سے غفلت لاتا ہے اور تیری خفیہ تدبیر سے مجھ کو لاپرواہ کرتا ہے یا مجھ کو مایوس کرتا ہے اس بھلائی سے جو تیری بارگاہ میں ہے۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۵) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو مجھ کو لاحق ہوا مجھ پر رزق کے بند ہونے کی صورت میں تجھ پر گلہ کرنے کے سبب سے اور میری تیری بارگاہ میں شکایت کرنے سے اور تجھ سے اعراض کرنے سے اور تیرے بندوں کی طرف میلان کرنے سے پھر بندوں کے لئے عاجزی اور ان کی طرف زاری کرنے سے اور تحقیق تو نے اپنی محکم کتاب میں مجھ کو اپنا فرمان سنایا ”تو نہ تو وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑگڑاتے ہیں“۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑥ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَزِمَنِي بِسَبَبِ
كُرْبَةٍ إِسْتَفْتَتْ عِنْدَهَا بِغَيْرِكَ وَاسْتَعْنَتْ عَلَيْهَا
بِسِوَاكَ وَاسْتَمَدَدَتْ بِأَحَدٍ فِيهَا دُونَكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑦ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ حَمَلَنِي عَلَيْهِ
الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِكَ، وَدَعَانِي إِلَى التَّضَرُّعِ لِأَحَدٍ مِنْ
خَلْقِكَ أَوْ اسْتِمَالَتِي إِلَى الطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَ غَيْرِكَ
فَأَثَرْتُ طَاعَتَهُ فِي مَعْصِيَتِكَ اسْتِجْلَابًا بِالْمَا فِي يَدَيْهِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَحَاجَتِي إِلَيْكَ كَمَا لَا غِنَى لِي عَنْكَ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -

⑧ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَثَلْتُ لِي نَفْسِي
اسْتِقْلَالَهُ وَصَوَّرْتُ لِي اسْتِصْغَارَهُ وَقَلَّلْتُهُ حَتَّى
وَرَطَطْنِي فِيهِ -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۶) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو مجھ کو لازم ہوا اس مصیبت کے سبب سے جس کے آنے پر میں نے تیرے غیر سے (یعنی ان لوگوں سے جو تجھے پسند نہیں) فریاد کی اور اس مصیبت پر میں نے تیرے سوا سے مدد طلب کی اور اس مصیبت میں تیرے علاوہ کسی سے بھی مدد طلب کی (کیونکہ حقیقی مددگار تو ہی ہے)۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۷) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس پر مجھ کو آمادہ کیا تیرے غیر کے ڈرنے اور تیری مخلوق میں سے کسی کے لئے آہ و زاری کرنے کی دعوت دی اور مجھ سے میلان کو چاہا اس چیز کے لالچ کی طرف جو تیرے سوا کے پاس ہے (جب کہ وہ بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے) تو میں نے تیری نافرمانی میں اس کی اطاعت کو ترجیح دی تاکہ جو چیز اس (بندہ) کے پاس ہے اس کو حاصل کروں اور مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں جیسا کہ (مجھے علم ہے کہ) مجھ کو تجھ سے بے نیازی نہیں۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرمائے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۸) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کو میرے نفس نے معمولی بنا کر پیش کیا اور اس کی چھوٹی صورت بنا کر پیش کیا اور اس کو کم کر دکھایا اور مجھ کو اس گناہ میں پھنسا دیا۔

تو اے میرے پروردگار تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑨ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ جَرَىٰ بِهِ
قَلَمُكَ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ عَلَىٰ إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِي وَ
لِجَمِيعِ ذُنُوبِي كُلِّهَا أُولَاهَا وَآخِرُهَا عَمْدُهَا وَخَطِيئَتُهَا
قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا دَقِيقُهَا وَجَلِيلُهَا
قَدِيمُهَا وَحَدِيثُهَا سِرُّهَا وَجَهْرُهَا وَعَلَانِيَتُهَا وَلِمَا
أَنَا مُذْنِبٌ فِي جَمِيعِ عُمْرِي -

فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ -
⑩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لِي وَأَسْأَلُكَ
أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا أَحْصَيْتَ عَلَيَّ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ قَبْلِي
فَإِنَّ لِعِبَادِكَ عَلَيَّ حُقُوقًا وَمَظَالِمًا وَأَنَا بِهَا مُرْتَهَنٌ
اللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَإِنَّهَا فِي جَنبِ عَفْوِكَ
يَسِيرَةٌ اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ أَوْ أَمَةٍ مِنْ
إِمَائِكَ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدِي قَدْ غَضِبْتَهُ
عَلَيْهَا فِي أَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَرَضِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ غَابَ أَوْ حَضَرَ
هُوَ أَوْ خَصِمُهُ يُطَالِبُنِي بِهَا وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَرُدَّهَا

اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۹) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جس کے بارے میں تیرا قلم چل چکا اور تیرے علم نے میرے بارے میں اُس گناہ کا احاطہ فرمایا اور مجھے جو وبال پڑنے والا ہے آخری عمر تک اس کا احاطہ فرمایا اور میرے تمام گناہوں کو ان میں کے پہلے اور ان میں کے آخری کو ان میں کے عمد او خطا کو ان میں کے قلیل اور کثیر کو اور ان میں کے چھوٹے کو اور بڑے کو ان میں کے معمولی اور ان میں کے بڑے کو ان میں کے پرانے اور نئے کو، ان میں کے پوشیدہ اور کھلم کھلا اور اعلانیہ کو اور ان تمام گناہوں سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں جو میں اپنی تمام عمر میں کرنے والا ہوں۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما اے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

(۱۰) اے اللہ! بے شک میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اُس گناہ کی جو میرا ہے اور میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے ہر اس ظلم کی جو تو نے شمار کئے مجھ پر جو میری جانب سے بندوں پر ہوئے کیونکہ بے شک تیرے بندوں کے لئے مجھ پر حقوق ہیں اور مظالم ہیں جن کے بدلے میں گروی ہوں، اے اللہ! اگرچہ وہ مظالم کثرت سے ہیں لیکن بے شک تیرے درگزر کے گوشہ میں تھوڑے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندوں میں سے جس بندے کا اور تیری بندیوں میں سے جس بندی کا مجھ پر حق ہو جن کو میں نے اس کی زمین میں چھینا یا اس کے مال میں یا اس کی عزت میں یا اس کے بدن میں، وہ بندہ غائب ہو یا حاضر ہو وہ خود مجھ سے اس کا مطالبہ کرے (یا اس کا وکیل) اور میں اس کی طرف اس کا حق لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

إِلَيْهِ وَلَمْ أَسْتَحْلِلْهَا مِنْهُ فَاسْأَلْكَ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ
وَسِعَةِ مَا عِنْدَكَ أَنْ تُرْضِيَهُمْ عَنِّي وَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ عَلَيَّ
شَيْئًا مُنْقِصَةً مِنْ حَسَنَاتِي فَإِنَّ عِنْدَكَ مَا يُرْضِيهِمْ
عَنِّي وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُرْضِيهِمْ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لِسَيِّئَاتِهِمْ عَلَيَّ حَسَنَاتِي سَبِيلًا.
فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ.

اور نہ ہی اس حق کو میں نے اس سے اپنے لئے حلال کرایا تو میں تجھ سے تیرے کرم اور جو دا اور وسعت کہ جو تیرے خزانوں میں ہے اس کے واسطے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو ان کو میری طرف سے راضی فرما دے اور ان کے حق کے لئے مجھ پر کوئی ایسی چیز مسلط نہ فرما کہ جو میری نیکیوں کو گھٹائے کیونکہ بے شک تیری بارگاہ میں وہ کچھ ہے کہ جو ان کو میری طرف سے راضی کر دے اور میرے پاس وہ نہیں جو ان کو راضی کر دے اور قیامت کے دن ان کی برائیوں کے لئے میری نیکیوں پر کوئی راستہ نہ بنا۔

تو اے میرے پروردگار! تو درود بھیج اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور میرے حق میں وہ گناہ معاف فرما لے سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے!

آخِرَى اسْتِغْفَارٍ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ
أَتُوبُ إِلَيْهِ اسْتِغْفَارًا يَزِيدُنِي فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَ تَحْرِيكَةِ
نَفْسٍ مِائَةَ أَلْفٍ ضِعْفٍ يَدُومُ مَعَ دَوَامِ اللَّهِ وَ يَبْقَى مَعَ
بَقَاءِ اللَّهِ الَّذِي لَا فَنَاءَ وَ لَا زَوَالَ وَ انْتِقَالَ لِمُلْكِهِ أَبَدًا
الْأَبَدِينَ وَ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ سَرْمَدًا فِي سَرْمَدٍ اسْتَجِبْ يَا لِلَّهِ
(و فِي نَسْخَةِ أُخْرَى يَا اللَّهُ)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ دُعَاءً وَافِقًا إِجَابَةً وَ مَسْأَلَةً وَافِقَةً مِنْكَ
عَطِيَّةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً
يَبْقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ، صَلَاةً تُرْضِيكَ وَ تُرْضِيهِ
وَ تُرْضِي بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَ سَلِّمْ كَذَلِكَ وَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَ
سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آخری استغفار

اللہ عظمت والے سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہوئے ایسی توبہ کرتا ہوں جو ہر آنکھ کے پلک جھپکنے اور سانس کے حرکت کرنے میں لاکھوں لاکھ سے بھی دونی جو اللہ جل شانہ کی ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ رہے اور اللہ جل شانہ کی بقاء کے ساتھ باقی رہے وہ اللہ جل شانہ کہ جس کو نہ فنا ہے اور نہ زوال اور جس کی بادشاہت میں تبدیلی نہیں، ہمیشہ ہمیش اور زمانوں در زمانہ، ہمیشہ ہمیش اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا کو قبولیت کے موافق فرما دے اور اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں عطا کے موافق فرما دے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے (جو تیری شایان شان ہو)۔

اے اللہ! درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور خوب خوب سلام بھیج ایسا درود جو تیرے دوام کے ساتھ دائمی ہو اور تیری بقاء کے ساتھ باقی ہو، تیرے علم کے سوا جس کا منتہی نہ ہو ایسا درود جو تجھے اور انہیں راضی کر دے اور اس درود کے وسیلے سے اے رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے اور اسی طرح سلام اور اس پر سبھی خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے، پاک ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کی سرگرمیاں

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کے تحت صبح و رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

**مدارس
حفظ و ناظرہ**

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

**درس
نظامی**

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کے تحت مسلمانوں کے روزمرہ کے مسائل میں دینی رہنمائی کے لئے عرصہ دراز سے دارالافتاء بھی قائم ہے۔

دارالافتاء

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علماء اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہے۔ خواہش مند حضرات نو مسجد سے رابطہ کریں۔

**مفت
سلسلہ اشاعت**

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کے زیر اہتمام نو مسجد کا غذائی بازار میں ہر جمعہ کو رات بعد نماز عشاء نوراً ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف علماء کرام مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

**ہفتہ واری
اجتماع**

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علماء اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لئے اور کوششیں اشاعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔

**کتب و کیسٹ
لائبریری**

تسکین روح اور تقویت ایمان کے لئے شرکت کریں ہر شب جمعہ نماز تہجد اور ہر اتوار عصر تا مغرب ختم قادریہ اور خصوصی دعا

**روحانی
پروگرام**